اَلحمدُ لِلّٰہِ وَالمِنّۃ

کہ

گنجینۂ عملیات ذخیرۂ آیاتِ مجموعۂ تسخیرات

موسومہ

عملیاتِ تسخیرِ عالم

عرف

عملیات محبت یا گنجینۂ عملیات طلسمی

مؤلفہ
صوفی محمد اشفاق حسین قادری چشتی صابری رامپوری
مؤلف عملیات تسخیر قلوب وغیرہ زیور طبع سے آراستہ ہوئی

ناشران [illegible] اینڈ کو تاجران کتب [illegible]

عملیات تسخیر عالم

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالْمِنَّۃ

کہ

گنجینۂ عملیات ذخیرۂ آیات مجموعۂ تسخیرات

موسومہ

عملیاتِ تسخیرِ عالم

عرف

عملیاتِ محبت یا گنجینۂ عملیاتِ طلسمی

مؤلفہ
صوفی محمد اشفاق حسین قادری چشتی صابری رامپوری
مؤلف عملیات تسخیر قلوب وغیرہ

زیور طبع سے آراستہ ہوئی

ناشران مسرز رشن اینڈ کو تاجران کتب [illegible] دریا گنج [illegible]

دیباچہ

تعلیمی مشاغل سے فرصت یاب ہونے کے بعد میری طبیعت کا رجحان
پاک کی روحانی تعلیم کی طرف زیادہ رہا اور اکثر و بیشتر میں کلامِ ربانی
ھنے اور سمجھنے میں اپنا وقت صرف کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ
یبرات قرآن پاک۔ کتب احادیث و کرامات بزرگان دین سے
ور کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا۔ اسی ذیل میں فن عملیات کی بہت سی کتابیں
نظر گذریں اور مجھے اس فن سے ایک خاص لگاؤ پیدا ہو گیا۔

شروع شروع میں نے خود اپنی حاجتوں کو رفع کرنے کے لئے
عملیات سے کام لیا۔ لیکن مجھے اس میں کبھی کامیابی ہوئی اور
ناکامی۔ جس مرتبہ مجھے ناکامی ہوئی سخت افسوس ہوا مگر میں نے ہمت
ہاری اور اپنے عقائد کو عمل کی تاثیرات سے منحرف نہیں ہونے دیا۔
بارہ اسی عمل سے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کامیابی پر بھی غور
اور پہلی ناکامی پر بھی۔ اس غور و خوض سے نتیجہ میں مجھے ہمیشہ
ہی کوئی خامی یا بد احتیاطی نظر آئی۔ میں ان تمام خامیوں کو اپنے
اد و وظائف و عملیات سے دور کر کے ایک مفصل اور مکمل بیاض
کر لی اور وقتاً فوقتاً ان تمام عملیات سے کبھی خود مستفید ہوا اور کبھی
سروں کو اس سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ رفتہ رفتہ یہ بیاض ایک
کتاب کی شکل میں تیار ہو گئی۔ خیال ہوا کہ پروردگار عالم کے اس
ہ گرامی سے اس کی تمام مخلوق انسانی کو فائدہ پہونچانے کی کوشش

دلو۔

چنانچہ گذشتہ سال اپنے اس جمع شدہ ذخیرہ کا کچھ حصہ
مختصر کتاب کی شکل میں "عملیات تسخیر قلوب" کے نام سے موسوم
کے عوام کی خدمت میں پیش کی۔ الحمد للہ کہ سرمایہ خلوص ابنائے وطن
ے قدر و قیمت کے ساتھ قبول کیا اور اس کتاب کا ایڈیشن بہت
د ختم ہو گیا۔ اور تیسرا ایڈیشن زیر طبع ہے۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے بعض احباب اور بعض بالکل
انف لوگوں نے مجھے اسی فن کی اور چند کتابیں مرتب کرنے کیلئے
د اصرار کے ساتھ خطوط لکھے۔ میں ان تمام اصحاب کا شکر گذار ہوں۔
ہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے اور ان کی فرمائش کے مطابق
یات کی یہ دوسری کتاب "عملیات تسخیر عالم" کے نام سے موسوم
کے اُن کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

اس کتاب میں بہت سے اعمال خود میرے مجرب ہیں اور بہت سے
یائے کرام و اصفیائے عظام کی مستند اور معتبر کتابوں کے ماخذ
اور مجھے امید ہے کہ ان تمام عملیات کو راسخ عقیدے سے اور
رجہ شرائط کے ساتھ جو صاحب بھی اپنے کام میں لائیں گے۔
شاء اللہ تعالے کامیاب ہوں گے۔

خیر خواہ
(صوفی) محمد اشفاق حسن قادری چشتی صابری
خادم آستانہ فاروقیہ ریاست رامپور
(یو۔ پی)

دائرۃ البروج فلکی

قرآن پاک سے ثابت ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے آسمان برج ہیں۔ اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ یعنی اُس آسمان کی قسم جس میں بروج ہیں۔

مفسرین کا بیان ہے کہ بروج سے مراد گھر ہے لیکن بعض اس کی حقیقت یہ بیان فرماتے ہیں کہ گردش آفتاب کے آسمان پر ایک دائرہ نمایاں ہوتا ہے اس دائرہ کو دائرۃ البروج کہتے ہیں۔ اور اس دائرہ کو آفتاب ایک سال میں طے کرتا ہے منجمین نے اس کو بارہ حصوں پر تقسیم کیا ہے اور ہر حصہ کو ایک برج تسلیم کیا ہے۔ چونکہ اس دائرہ میں ستاروں کے اجتماع سے ایک خاص شکل ہویدا ہوتی ہے۔ اس لئے اُس شکل کی مناسبت سے اس حصہ کو ایک خاص نام سے موسوم کیا ہے۔

اس قسم کی شکلیں اس دائرے میں نمایاں طور بارہ ظاہر ہوتی ہیں اسی لئے بارہ بروج کے علیحدہ علیحدہ نام مقرر کردئے گئے۔ منجمین ان کو راس کہتے ہیں اور ان راسوں کا سلسلہ عملیات انسان اور اس کے کردار سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ عملیات کے شائقین بروقت عمل خواہی اس کا خاص طور پر لحاظ رکھیں۔ ان بروج کی تفصیل حسب ذیل ہے

پہلا برج: نام اس کا حمل ہے اس کی شکل مینڈھے کی ہے سر پر دو سینگ ہیں۔ مؤکل اس کا سراخیل ہے۔ اور حروف اس کے ہ۔ م

ن۔ ش۔ ذ ہیں۔

دوسرا برج: نام اس کا ثور ہے۔ اس کی شکل بیل کی ہے۔ مؤکل اس کا عزرائیل ہے اور حروف ب۔ و۔ ی۔ ا۔ ن۔ ص۔ ت۔ ہیں۔

تیسرا برج: نام اس کا جوزا ہے۔ اس کی شکل دو جڑے ہوئے بچوں کی ہے مؤکل اس کا اسرافیل ہے اور حروف ج۔ ر۔ ث۔ س۔ ق۔ ث۔ ظ ہیں۔

چوتھا برج: نام اس کا سرطان ہے اس کی شکل کیکڑے کی ہے۔ اس کا مؤکل تہفائیل اور حروف د۔ ح۔ ل۔ ع۔ ر۔ خ۔ غ ہیں۔

پانچواں برج: نام اس کا اسد ہے۔ اس کی شکل شیر کی ہے۔ اس کا مؤکل شراطیل اور حروف ا۔ ہ۔ ط۔ م۔ ن۔ ش۔ ذ ہیں۔

چھٹا برج: نام اس کا سنبلہ ہے۔ اس کا مؤکل شہکیل ہے اور حروف ب۔ و۔ ی۔ ن۔ ص۔ ت۔ ض ہیں۔

ساتواں برج: نام اس کا میزان ہے اس کی شکل ترازو ہے اس کا مؤکل سرقیل ہے۔ حروف اس کے د۔ ح۔ ل۔ ع۔ ر۔ خ۔ غ ہیں۔

آٹھواں برج: نام اس کا عقرب ہے۔ اس کی شکل بچھو کی ہے۔ اس کا مؤکل صرصائیل ہے۔ اور اس کے حروف ا۔ ہ۔ ط۔ م۔ ف۔ ش۔ ذ ہیں۔

نواں برج: نام اس کا قوس ہے۔ اس کی شکل ایک مرد کی ہے جو تیر کمان ہاتھ میں لئے ہے اس کا مؤکل سرطائیل ہے اور حروف ب۔ و۔ م۔ ی۔ ن۔ ص۔ ف۔ ض۔ ہیں۔

دسواں برج: نام اس کا جدی ہے۔ اس کی شکل بکری کی ہے۔ اس کا مؤکل قسمکائیل ہے اور حروف ج۔ ز۔ ک۔ س۔ ق۔ ت۔ ظ ہیں۔

گیارھواں برج: نام اس کا دلو ہے اس کی شکل ایک مرد کی ہے جو ڈول

ہاتھ میں لئے ہے اور پانی گرا رہا ہے۔ اس کا مؤکل میکائیل ہے اور حروف [illegible]
اس کے د۔ ح۔ ل۔ ر۔ خ۔ غ ہیں۔

بارھواں برج:۔ نام اس کا حوت ہے اس کی شکل [illegible] مچھلیوں
کی ہے اس کا مؤکل قیبائیل ہے اور حروف ج۔ ن۔ [illegible]
ان جملہ بروج کی طبیعت مختلف ہے۔ منجمین نے اس کی تفصیل [illegible]
لکھی ہے۔

حمل۔ اسد۔ قوس :۔	آتشی
تور سنبلہ۔ جدی	خاکی
سرطان۔ عقرب۔ حوت	آبی
جوز۔ میزان۔ دلو	بادی

ان بروج کو تین حصوں پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ [illegible]
بہتر۔ ایک اوسط اور ایک بدتر ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے :۔

منقلب:۔ حمل۔ سرطان۔ میزان۔ جدی۔ یہ چاروں برج منقلب کہلاتے ہیں۔ یعنی جس وقت چاروں بروج میں آفتاب کا دورہ ہو تو محبت، تسخیر، کشائشِ رزق کے عملیات ہرگز نہ کرنے چاہئیں بلکہ تباہیٔ دشمن یا ہلاکی و جدائی کے عمل کئے جائیں۔

ثابت:۔ ثور۔ اسد۔ عقرب۔ دلو یہ چاروں برج ثابت کہلاتے ہیں یعنی جس وقت ان بروج میں آفتاب کا دورہ ہو تو محبت
تسخیر، کشائش رزق و فتحیابی وغیرہ کا عمل کیا جائے۔ نفرت۔ جدائی

تباہی و ہلاکت کے لئے کوئی عمل نہ کیا جائے

ذوجسدین:۔ جوزا۔ سنبلہ۔ قوس۔ حوت یہ چاروں ذوجسدین کہلاتے ہیں یعنی جس وقت ان پر میں آفتاب کا دورہ ہو تو اوسط درجہ کے اعمال کئے جا سکتے ہیں۔

سبعہ سیارہ

کتب معتبرہ سے ثابت ہے کہ خداوند تبارک و تعالےٰ اپنی قدرت کاملہ سے آسمان پر بے شمار ستارے پیدا کئے ہیں ا
تمام ستارے آسمان پر اس طرح جڑے ہیں جیسے انگشتری پہ نگ
ہوتے ہیں۔ ان ستاروں کی تعداد و شمار آج تک کوئی نہیں معلو
ان ہی ستاروں میں صرف سات ستارے ایسے ہیں جو چلتے پھرتے
اور ان کا طلوع و غروب ہوتا ہے اور ان کے اثرات اہلِ عالم پر پڑ
ہیں ان کو سبعہ سیارہ کہتے ہیں۔

عاملین اِن ستاروں کے ماتحت اپنے عملیات میں تاثیروں
کرتے ہیں اور اس امر کا خیال رکھتے ہیں کہ جس قسم کا کام کرنا ہوتا ہے
ستارے کے عمل میں وہ کرتے ہیں اور اس سے وہ کام یقینی طور پر
کو پہونچتا ہے۔ یہ ساتوں ستارے اپنے اپنے اثرات میں مختلف
ہیں۔ بعض سعد ہیں اور بعض نحس ہیں اس لئے ہر عامل کو ان سیارگان
اوقات حکمرانی سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے۔ ان ساتوں ستا
کے مندرجہ ذیل نام ہیں۔

قمر۔ عطارد۔ زہرہ۔ شمس۔ مریخ۔ مشتری۔ زحل

...ان کے خواص و تاثیرات کی تفصیل یہ ہے :-

۱۔ سعد اصغر ہے یہ دوشنبہ کا حاکم ہے اس کی ساعت میں محبت کے لیے، شفائے مریض کے لیے، کشائش رزق کے لیے عملیات پڑھے جاتے ہیں۔

عطارد :- سعادت و نحوست میں مشترک ہیں۔ یہ چہارشنبہ کا حاکم ہے۔ اس کی ساعت میں تیغ بندی و زبان بندی وغیرہ کے عملیات پڑھے جائیں۔

زہرہ :- سعد اصغر ہے۔ یہ جمعہ کا حاکم ہے اس کی ساعت میں خواب و زبان بندی وغیرہ کے عملیات پڑھے جائیں۔

شمس :- سعد ہے یہ یکشنبہ کا حاکم ہے۔ اس کی ساعت میں محبت اور شفائے مریض کے لیے عمل کئے جائیں۔

مریخ :- نحس اصغر ہے یہ سہ شنبہ کا حاکم ہے اس کی ساعت میں عداوت ... دشمن کے تعویذ لکھے جائیں۔

مشتری :- سعد اکبر و مبارک ہے یہ پنجشنبہ کا حاکم ہے اس کی ساعت میں حب و ترقی درجات اور دفع بیماری وغیرہ کے لیے ... کئے جائیں۔

زحل :- نحس اکبر ہے یہ شنبہ کا حاکم ہے اس کی ساعت میں صرف ہلاکی دشمن ہی کے عملیات پڑھے جائیں۔ یا بغض و جدائی کے لیے ... ہیں۔ عمل حب اس کے دور میں نہ کیا جائے، باطل ہوگا۔

عامل کو جب کوئی کام کرنا ہو تو ان سات ستاروں کی تاثیرات کا لحاظ رکھے۔ ... دن اس کام کے لیے موزوں ہو اسی دن وہ کام کرے۔ واضح رہے کہ جس ... ستارہ تعلق رکھتا ہے اس روز آفتاب کے نکلتے ہی ایک گھنٹہ تک ... ساعت ہے پھر دوسرے گھنٹہ تک دوسرے ستارہ کا وقت ہے تیسرے

گھنٹہ تک تیسرے ستارہ کا، اسی طرح دوپہر کا وقت، ایک بجے تک ساتوں ستاروں کا وقت ایک ایک گھنٹہ بعد تک پورا ہوتا ہے۔ پھر ایک بجے کے بعد وہی ستارہ جو آفتاب نکلتے وقت شروع ہوتا ہے لیکن یہ خیال ضروری ہے کہ کسی موسم میں آفتاب ۷ بجے نکلتا ہے اور کسی موسم میں ساڑھے پانچ بجے، دوسرے روز آفتاب نکلنے کے وقت سے دوسرا ستارہ کا دورہ شروع ہوتا ہے جو اس دن بھی ایک ایک گھنٹہ بعد اپنا وقت پورا کرتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے مندرجہ ذیل مثال درج ہے۔

مثلاً شنبہ یعنی سنیچر کے دن آفتاب نکلنے کے وقت پہلے ساعت زحل کی ہے اور آفتاب چھ بجے نکلتا ہے پس چھ بجے سے سات بجے تک ساعت زحل کی کہلاتی ہے اور سات بجے سے آٹھ بجے تک ساعت مشتری کی اور نو بجے تک ساعت مریخ کی۔ پھر دس بجے تک شمس کی۔ گیارہ بجے تک زہرہ کی۔ بارہ بجے تک عطارد کی، ایک بجے تک قمر کی۔ ایک بجے دن کے بعد پھر زحل کی ساعت شروع ہوتی ہے اور دو بجے تک رہتی ہے پھر تین بجے تک مشتری چار بجے تک مریخ پانچ بجے تک شمس، چھ بجے زہرہ، سات بجے تک عطارد، آٹھ بجے تک قمر، ۹ بجے تک پھر زحل، دس بجے تک مشتری ۱۱ بجے تک مریخ ۱۲ بجے تک شمس ایک بجے تک، زہرہ دو بجے تک، عطارد تین بجے تک، قمر چار بجے تک اور چار بجے پھر زحل کی باری آجاتی ہے۔

روز یکشنبہ یعنی اتوار کے دن آفتاب نکلتے وقت شمس کی ساعت شروع ہوتی ہے۔

عاملین کی سہولت کے لئے نقشہ ساعات درج کیا جاتا ہے اس سے ستاروں کی ساعتیں بخوبی سمجھ میں آسکتی ہیں۔

ہر عامل کو چاہئے کہ مندرجہ ذیل نقشہ ساعات کا لحاظ عمل پڑھتے وقت ضرور رکھیں۔ تاکہ عمل کامیاب ہو اگر ان جملہ شرائط کی پابندی کر کے عمل پڑھا جاوے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہر دعا مستجاب ہوگی اور عمل کامیاب ہوگا یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔

نقشہ ساعات

شب و روز	پہلا پہر			دوسرا پہر			تیسرا پہر			چوتھا پہر		
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
شب شنبہ	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر
شنبہ	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ
شب یکشنبہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ
روز یکشنبہ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل
شب دوشنبہ	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد
روز دوشنبہ	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس
شب سہ شنبہ	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری
روز سہ شنبہ	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر
شب چہار شنبہ	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ
روز چہار شنبہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ
شب پنجشنبہ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	[illegible]
روز پنجشنبہ	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	شمس	زہرہ	عطارد	قمر
شب جمعہ	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس
روز جمعہ	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری

ہر عامل کو چاہئے کہ بروقت عمل خوانی اس نقشہ کی رو سے ساعت دیکھیں اور اس عمل کے لئے جو ساعت مناسب ہو اسی رو سے یعنی اسی ساعت میں عمل شروع کریں۔

بخورات

جس طرح سیارگان کی رفتار و خواص و اثرات مختلف ہیں۔ اسی طرح ان کے لئے بخورات بھی جدا جدا ہیں۔ ان بخورات سے اس ستارے کے موکل کی توجہ عامل کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور عمل پڑھنے کے لئے ان موکلات کی توجہات کی عامل کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ عمل پڑھتے وقت یا تعویذ لکھتے وقت اس وقت کا جو ستارہ حاکم ہو اس کو مقررہ بخورات سے اپنی جانب متوجہ کر لیا جائے۔ ایسا کرنے سے وہ عمل بہت اپنا اثر پیدا کرتا ہے۔ ہر ستارہ کی بخورات کی تفصیل درج ذیل ہیں۔

زہرہ: عود۔ عنبر۔ مشک۔ صندل سفید۔ کافور۔ اسپند
عطارد: عود۔ کافور۔ صندل سرخ۔ قرنفل
شمس: عود۔ مشک۔ دارچینی۔ قمر: عود۔ کافور۔ شہد
زحل: عود۔ لوبان۔ رال مریخ: عود۔ لوبان
مشتری: عود۔ لوبان۔ مشک۔

عمل پڑھنے کا طریقہ

کائنات عالم میں ہر ایک کام کے لئے ایک اصول اور ایک ضابطہ مقرر ہوتا ہے جو اس کام کو انجام تک پہونچانے کا ضامن ہوتا ہے۔ جو لوگ اس اصول اور ضابطے کے قائل ہیں اور مجوزین کے بتائے ہوئے طریقوں پر اس کام کو کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں رہتے۔ یہ اصول بہت سے تجربات کے مقرر کئے جاتے ہیں تاکہ آئندہ اس کام کے کرنے والوں کو کوئی الجھن نہ پیش

آئے اور وہ کام باسلوبی انجام کو پہونچ جائے
عملیات کے سلسلہ میں بھی اس کے واسطے اصول اور ضابطے عاملین اور کاملین نے اپنے تجربات سے اخذ کر کے بنا دئے ہیں تاکہ مبتدیوں کو آسانی رہے لیکن عام طور پر شائقین عملیات ان ضوابط ضروریہ کو طول امل خیال کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں اور وقتی طور پر اپنے لئے نئے طریقے اور نئے اصول بنا کر عملیات جیسا وسیع و بلیغ علم آسان بنا لیتے ہیں اور اپنے ہی ضابطوں اور قاعدوں کو کام میں لا کر عملیات کو شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس عمل کی بنیاد کھوکھلے آثار پر غیر مستحکم مادہ سے رکھی گئی ہو وہ محل نہ خوب صورت تعمیر ہو سکتا ہے اور نہ مضبوط، اور یہی ہوتا ہے کہ وہ عمل یا تو پایۂ تکمیل تک پہونچتا ہی نہیں ہے اگر پہونچ بھی جاتا ہے تو اس میں اثرات نام کو بھی نہیں ہوتے۔ اس وقت نومشق عامل کلام الٰہی کو بے اثر کہہ دیتے ہیں حالانکہ غلطی خود اپنی ہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ان غلطیوں کو مان لے اور جان لے تو پھر دنیا کا کوئی بھی عمل بے اثر نہیں ہو سکتا۔ اسی کی بدیہی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی ناواقف عامی شخص اپنے ہاتھ میں شمشیر آب دار لے کر میدان کارزار میں کود پڑے اور دشمن سے نبرد آزما ہو جائے تو اس کا نتیجہ بجز ہلاکت کیا ہو سکتا ہے۔ ہونا یہ چاہئے تھا کہ وہ شخص پہلے شمشیر زنی کے تمام قواعد اور ضوابط سے واقف ہوتا، مدافعت کے طریقے اور حملہ کرنے کے وہ ضابطے جو اس فن کے ماہروں نے ہزاروں جانیں قربان کرنے کے بعد مرتب کئے ہیں ان کو جانتا اور ان ہی طریقوں کو استعمال کرنے کا قائل ہوتا تو پھر نتیجہ یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔

اس مثال کی روشنی میں ماننا پڑے گا کہ فن عملیات کے سلسلہ میں عاملین نے جو شرائط اور اصول نہایت جانکاہی اور عرق ریزی سے مرتب کئے ہیں ان پر ہر عامل کو معتقدانہ حیثیت سے عمل پیرا ہونا چاہئے ورنہ میرا عقیدہ ہے کہ بے اصول کام کبھی پایۂ تکمیل کو نہیں پہونچ سکتا۔

کتب معتبرہ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ عامل کے لئے مندرجہ ذیل شرائط کو سامنے رکھنا نہایت ضروری ہے

(۱) شریعت اسلامیہ کا نہایت پابند ہو۔ شکل و صورت مومنین و مسلمین کی رکھتا ہو۔ نماز اور روزے کا پابند ہو (۲) جھوٹ بولنے سے قطعی پرہیز رکھتا ہو (۳) حلال طریقے سے روزی کما کر کھانے کا عادی ہو (۴) حرام چیزوں کو قریب نہ آنے دے (۵) زنا و بدکاری سے احتراز کرے (۶) غیبت و چغلی، بدزبانی، فحش گوئی وغیرہ تمام بری باتوں اور خراب خصلتوں سے توبہ کرے (۷) فقراء و مساکین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور خیرات سے ہاتھ نہ روکے۔ (۸) ذوی القربیٰ کے حقوق ادا کرے (۹) خیال رکھے کہ ہر عمل عروج ماہ کی پہلی جمعرات کو جسے نوچندی جمعرات کہتے ہیں شروع کرے۔ (۱۰) عمل کرنے کے لئے سب سے بہتر وقت بعد نماز عشاء ہے اگر کسی خاص عمل میں کوئی دوسرا وقت متقدمین نے مقرر کر دیا ہے تو پھر اس کی پابندی کرے (۱۱) عمل شروع کرنے سے پہلے عامل کو چاہئے کہ غسل کر کے لباس پاکیزہ پہن کر عطر سے معطر ہو۔ (۱۲) عمل پڑھنے کے لئے ایک تنہائی کا گوشہ مقرر کر لیا جائے اور ہمیشہ تا اختتام عمل اسی جگہ عمل پڑھا جائے۔ (۱۳) عمل شروع کرنے سے پہلے خوشبودار بخور مثلاً اگربتی، لوبان، عود یا اسی قسم کی اور کوئی چیز سلگا کر اس جگہ کو معطر کر لیا جائے (۱۴) اکثر عملیات کے لئے [illegible] زوانات کی شرط

عاملین نے جلالی ہو پڑھنے کا اتفاق ہو تو بے حد ضروری ہے کہ ترکِ حیوانات کیا جائے۔ یعنی ایامِ عمل خوانی میں گوشت دودھ گھی انڈا مچھلی۔ لہسن، پیاز ہرگز ہرگز استعمال کی جائے (۵)، ایامِ عمل خوانی میں اپنی بیوی سے مباشرت نہ کیجائے۔ (۶) چمڑے کا جوتہ ایسے عمل کے پڑھنے کے دوران میں جس میں ترکِ حیوانات کی شرط ہو۔ پہننے بلکہ ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے جو چمڑے سے بنائی گئی ہو۔ (۷) عمل بلاناغہ وقت مقررہ پر اسی جگہ پڑھنا چاہئے جہاں پہلے دن شروع کیا گیا ہے اگر ایک دن بھی مقررہ میعاد کے اندر ترک ہو گیا تو عمل باطل ہو جائے گا۔

اگر ہدایات مذکورہ بالا میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو تو پچھلے دنوں کی محنت ضائع ہو جائے گی ایسی صورت میں چاہئے کہ عمل از سرِ نو شروع کیا جائے اور اگر مذکورہ بالا پابندیوں کے ساتھ عمل پڑھ لیا گیا تو انشاء اللہ ضرور کارگر ہوگا۔

بعض اوقات پہلی مرتبہ باوجود تمام شرطوں اور کامل توجہ کے ساتھ عمل ختم ہونے پر بھی اپنا اثر نہیں دکھاتا جس سے عامل بے دل ہو کر مایوس ہو جاتا ہے ایسا ہرگز نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ اسی عمل کو دوبارہ کرنا چاہئے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ہوگی۔ کیونکہ پروردگارِ عالم اپنے بندوں میں سے بشرطیکہ وہ حکمِ خدا اور رسول کی پابندی کرتے ہوں کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اور جو اس کی قوت پر بھروسہ رکھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔

ہاں یہ سمجھا دینا باقی رہ گیا کہ باوجود احتیاط مطابق اصول مقررہ عمل تمام کر لینے عمل کے پہلے یا دوسری مرتبہ اثر نہ دکھانے کا باعث کیا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے۔ اس کی مقررہ شرائط میں ضرور کوئی بداعتدالی ہو جاتی ہے جس کا عامل کو خیال گمان تک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھنا چاہئے کہ عامل عمل کر رہا ہے۔ ترکِ حیوانات کی شرط ہے اور عامل اس شرط پر کامل طور سے پابند ہے اور چلہ جو

اس عمل کی مدت معین ہے قریب ہے صرف ایک یا دو دن ہی باقی ہیں کہ عین اس وقت عامل اپنے مکان میں بیٹھا ہوا کسی اور کام میں مصروف ہے ایک شخص، مجلد کلام مجید جس کے پشتے پر چمڑا چڑھا ہوا ہے لے کر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فلاں آیت اس کلام مجید میں سے نکال کر مجھے سنا دیجئے۔ عامل اس کو لے کر کھولتا ہے اور آیت تلاش کر کے سائل کو سناتا ہے۔ اب وہ شخص عامل سے اپنا کلام مجید لے کر چلا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی عامل کا سارا عمل بھی تشریف لے جاتا ہے۔ کیونکہ ترکِ حیواناتی کی شرط اسی وقت جاتی رہتی ہے جب وہ کلام مجید جس کے پشتے پر چمڑا لگا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں آیا پس عمل باطل ہو گیا۔ اور ساری محنت بے کار ہو گئی اس لئے کسی عمل سے بے عقیدہ ہونا ہرگز مناسب نہیں۔ عمل کو پوری پابندیوں کے ساتھ برابر جاری رکھا جائے۔ انشاء اللہ ضرور کامیابی ہوگی۔

عاملین کیلئے حصار کرنیکے عملیات

عاملین کو چاہئے کہ جب وہ کسی جلالی عمل کے لئے زکوٰۃ دینے کا ارادہ کریں تو پہلے ان حصاروں سے کام لیں۔ یہ حصار ان کو ان موکلان کی ایذا رسانی سے محفوظ رکھیں گے جن کو وہ مطیع کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری آفاتِ ارضی و سماوی سے بھی عامل محفوظ رہیں گے جو اکثر بار دورانِ عمل میں اچانک طور پر کسی ہیبتناک شکلوں میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ عاملین اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور ان حصاروں کو جزوِ عملیات تصور کریں۔

(۱) عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی تین بار پڑھ کے ہر بار دم کرے اور

دستک دے۔ یہ عمل ہر روز کرنا ہر قسم کی حفاظت کا ضامن ہے۔

(۲) مندرجہ ذیل کلمات تین مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لے۔ انشاء اللہ تمام بلیات سے محفوظ رہے گا۔

یَا حَلِیْمُ یَا کَرِیْمُ یَا حَافِظُ یَا حَفِیْظُ یَا نَاصِرُ یَا نَصِیْرُ یَا رَقِیْبُ یَا وَکِیْلُ یَا اَللّٰہُ یَا اَللّٰہُ یَا اَللّٰہُ بِحَقِّ کٓھٰیٰعٓصٓ حٰمٓعٓسٓقٓ حرز کردم خود را به لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ حصار کردم خود را به مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ

(۳) مندرجہ ذیل حصار بھی نہایت موثر ہے بروقت ضرورت کام میں لائے۔ کلمات یہ ہیں:

اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پڑھ کر گیارہ مرتبہ معوذتین پڑھے اور دونوں سورتوں کے بیچ میں بسم اللہ نہ کہے اور اپنے اوپر دم نہ کرے

(۴) اس حصار کو عشا کے بعد پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور تین بار دستک دے۔ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ حَوَالَیْنَا حِصَارُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ قُفْلًا وَّ مِنْہَا دَالًّا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ صد ہزار گردمن و بیرو دستان من و حصار باد مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ بر دوستان من یار باد و بستم دست و پائے عقل و ہوش و چشم و گوش و زبان کسانیکہ در حیرت وہ ہر دو عالم اند از آدمیان و دیوان و پریان و ماران و کژدمان و خداناترسان و ناخفان و ناشکران و کسانیکہ مارا بد خواہندہ و بد اندیشند بحرمت لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مہر کردم بنام مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ قَوْلًا وَّ فِعْلًا اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیْدٌ وَاللّٰہُ مِنْ وَّرَآئِہِمْ مُّحِیْطٌ بَلْ ہُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِیْدٌ ط فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ط صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا

یَرْجِعُوْنَ ط صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ ط صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا یَتَکَلَّمُوْنَ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ ط وَصَلَّی اللّٰہُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاہِرِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ

خواص اسمائے الٰہی

اللہ جل شانہ کے اسمائے مبارکہ کے خواص علمائے عظام اور اولیائے کرام نے اپنی اپنی تصانیف میں نہایت تشریح اور توضیح سے بے تعداد لکھے ہیں جن کے مطالعہ سے انسان کی عقل حیرت میں آجاتی ہے اور فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر انسان صرف ان اسمائے الہیہ کو ہی پورے اعتقاد اور یقین کے ساتھ تلاوت کرتا رہے تو دنیا کی کوئی بھی مشکل اس کو مشکل نظر نہ آئے۔ طالبین کے مطالب صرف ان ہی اسمائے حسنیٰ کی برکت سے پورے ہوتے ہیں۔

علمائے متقدمین نے ان اسمائے الہیہ کی تلاوت کے طریق، تعداد اور وقت کا تعین، تاثیرات و فضائل اپنی اپنی تحقیق کے مطابق کسی قدر مختلف بیان فرمائے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ اسمائے حرف ندا کے ساتھ پڑھنا چاہئے جیسے یا اللہ اور بعض کے نزدیک الف اور لام کے ساتھ پڑھنا چاہئے جیسے الرحمٰن بعض صوفیا کے نزدیک دن کو الف و لام کے ساتھ اور شب کو حرف ندا کے ساتھ۔

میں نے اُن تمام مختلف اقوال کو مطالعہ کر کے ان ہی کے اقوال کے مطابق آسان طریقہ اخذ کر کے افادۂ عوام کے لئے اس مختصر میں درج کیا ہے۔

اسمائے الٰہی تین قسم کے ہیں۔ جمالی۔ جلالی۔ مشترک۔ ہر ایک کے ساتھ تعداد قرارت اور جمالی و جلالی کی وضاحت کر دی گئی ہے جس سے طالبین کو کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی

اَللّٰہُ، جلالی۔ عدد ۶۶

یہ اسم ذات جامع جمیع صفات ہے اور قرآن شریف میں دو ہزار تین سو ساٹھ جگہ آیا ہے۔ جمیع اسمائے صفات اسی سے متعلق ہیں اگر کوئی روزانہ ہزار بار پڑھے صاحبِ یقین ہو اگر کوئی روزانہ ہر نماز کے بعد سو بار پڑھے صاحب کشف و صاحب باطن ہو۔ و دفع مرض کے لئے ۶۶ مرتبہ روزانہ لکھ کے مریض اور آسیب زدہ کو پلائے انشاء اللہ نفع کامل ہو گا۔ اور کسی رکابی میں بلا تعداد بقدر وسعت لکھے اور پانی سے دھوئے اور وہ پانی مرگی کے مریض یا آسیب زدہ پر چھڑکے تو صحت ہو گی۔ اگر کسی سخت مہم کے لئے سوا لاکھ بار چالیس دن میں لکھے یا لکھوائے اور گولیاں بنا کے روزانہ دریا کے اندر ڈالے تو مہم سر ہو جائے گی۔

بعض کے نزدیک اللہ اسم اعظم ہے کیونکہ اسم ذات ہے اور بے نقط ہے جیسے اللہ کی ذات تمام عیوب سے منزہ ہے اسی طرح اسم ذات بھی نقطہ سے مبرا ہے

اگر اللہ سے الف نکال ڈالیں تو لِلّٰہ بھی اپنے معنی پر باقی رہتا جیسے لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور اگر لام اول بھی دور کریں تو بھی اصلی معنی پر باقی رہتے ہیں جیسے لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور اگر

معنی باقی رہتے ہیں جیسے ھُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ط

حدیث شریف میں ہے جو کوئی خلوت میں تین ہزار بار یا اللہ کہے اللہ اس کے دل کو مخزن اسرار کر دیتا ہے۔

اَلرَّحْمٰنُ ۔ جمالی۔ عدد ۲۹۸

غفلت اور نسیان اور دل کی سختی دور کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد سو بار پڑھے اور جو کوئی نماز فجر کے بعد ۲۹۸ بار پڑھا کرے اللہ رحم کرتا ہے

حدیث شریف میں رحمٰن وہ ہے جو بندوں پر ہر حال میں رحم کرتا ہے۔ پیدا ہونے سے جنت میں جانے تک

اَلرَّحِیْمُ ۔ جمالی۔ عدد ۲۵۸ ۵۰۰

تسخیر خلائق کے لئے بعد نماز فجر سو بار پڑھے اور روزانہ پانچسو بار پڑھنے والا مالدار ہوتا ہے جو کوئی الرحمن الرحیم کو لوہے کے نگ پر کھدوا کر جمعہ کی نماز کے بعد اپنے ہاتھ میں پہنے مصائب عالم سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی الرحیم کو لکھ کر شب کو اپنے سرہانے رکھ کے سوئے اور خدا سے دعا کرے کہ فلاں کام کے ہونے نہ ہونے یا اس کے خیر و شر سے مجھے آگاہ کر دے تو سات دن میں آگاہ ہو جائے گا۔

اَلْمَلِکُ ۔ مشترک۔ عدد ۹۰

روزانہ اس کو ۹۰ بار پڑھنے والے کا دل روشن اور تونگر ہوتا ہے۔ امراء اس کی عزت کرتے ہیں۔ بعض صوفیا کا قول ہے کہ جو کوئی اسم کو تین روز سبب دعوت صغیر یا نو روز دعوت کبیر پڑھے

صاحبِ جاہ وجلال ہوگا۔ اگر اس کا طالب نہو تو قربِ حضرتِ حق پائے گا۔

اَلْقُدُّوْسُ ۔ مشترک ۔ عدد ۱۷۰

روزانہ زوال کے قریب پڑھنے والے کا دل روشن ہوتا ہے۔ جو کوئی جمعہ کے بکثرت پڑھے فرشتہ صفت ہو دشمن سے پناہ پانے کے لئے جس قدر پڑھ سکے پڑھے۔ مسافر اگر مداومت کرے گا تو عاجز نہ ہوگا۔ اور تین سو انیس (۳۱۹) شیرینی پردم کرکے دشمن کو دیوے تو مہربان ہو جائے گا۔ اور روزانہ ہزار بار پڑھنے والا درندہ گزندہ، اور آفاتِ ارضی وسماوی سے محفوظ رہے گا۔ تسخیرِ قلوب کے لئے روزانہ ۱۷۰ بار بعد نماز عشاء پڑھنا چاہئے۔

اَلسَّلَامُ ۔ جمالی ۔ عدد ۱۳۱

جس بیمار پر ایک سو گیارہ (۱۱۱) بار پڑھ کے کئی دن دم کرے اچھا ہو جائے گا۔ اور اس پر مداومت کرنے والا خوف سے نڈر ہوتا ہے اور جو کوئی تین سو انیس (۳۱۹) بار مٹھائی پر دم کر کے دشمن کو دے تو وہ دوست ہو جائے گا۔ زیادتی علم کے لئے یکہزار مرتبہ نماز فجر پڑھا کرے۔

اَلْمُؤْمِنُ ۔ جمالی ۔ عدد ۱۳۶

اس کو بہت پڑھنے والا شر شیاطین سے محفوظ رہتا ہے اور ظاہر و باطن اس کا امانِ حق میں رہتا ہے۔ اور مخلوقِ خدا

اَلْمُهَيْمِنُ ۔ جمالی عدد ۱۴۵

روزانہ غسل کر کے ایک سو پندرہ (۱۱۵) پڑھنے والا دلوں کے بھیدوں سے واقف ہوتا ہے اور آفتوں سے امن میں رہتا ہے اور قیامت میں جنت پانے کی بشارت ہے۔ دنیا میں نیک نام اور باعزت رہے گا۔

اَلْعَزِيْزُ ۔ جلالی ۔ عدد ۹۴

بعد نماز فجر روزانہ اکتالیس بار پڑھنے والا محتاج نہیں رہتا۔ ذلت کے بعد اس کی مداومت عزیز بنا دیتی ہے۔ سنت و فجر کے بیچ میں اکتالیس بار پڑھے تو دنیا میں مالدار اور عقبیٰ میں جنتی ہوگا۔

اَلْجَبَّارُ ۔ جلالی ۔ عدد ۲۰۶

ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ یہ اسم پڑھنے والا ظالموں سے محفوظ رہتا ہے اور مداومت کرنے والے کی لوگ غیبت اور بدگوئی نہیں کرتے اور مالدار ہوتا ہے۔ جو شخص اس اسم کو انگوٹھی پر کھدوا کے پہنے باہیبت و شوکت ہو۔ سلاطین و امراء کے لئے اس کی مداومت ضروری ہے اور مقہور تنا الداد کے لئے جمعہ کی نماز کے بعد تنلو بار پڑھے۔

اَلْمُتَكَبِّرُ ۔ جلالی ۔ عدد ۶۶۲

زوجہ سے صحبت کرنے سے پہلے جو شخص اس اسم کو دس بار پڑھے گا اللہ اس کو فرزند نیک اور بہتر گا دے گا اور ہر کام کی ابتداء اسے پڑھنے والا بامراد رہے گا۔

اَلْخَالِقُ ۔ جمالی ۔ عدد ۷۳۱

اس پر مداومت کرنے والا کثیر ثواب پاتا ہے اور اس کا

دل اور منہ نورانی ہوتا ہے اور تمام کام پورے ہوتے ہیں اور جو
کوئی لڑائی میں تین سو مرتبہ پڑھ کر دشمن کے مقابلے کو جائے فتح پائے۔

اَلْبَارِئُ ۔ مشترک ۔ عدد ۲۱۳

اس پر مداومت کرنے والا مرتے ہی جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اگر طبیب یا ڈاکٹر یا وید اس پر مداومت کریں تو دستِ شفا عطا ہو جو کوئی گلاب یا موتیا یا چنبیلی کے پھول پر پچھتر بار دم کر کے سنگھائے اور اپنا اور معشوقہ کا نام لیتا جائے تو معشوقہ اس کی عاشق ہو جائے گی۔

اَلْمُصَوِّرُ ۔ جلالی ۔ عدد ۲۳۶

بانجھ عورت سات روزے رکھے اور افطار کے وقت روزانہ اکیس بار یہ اسم پانی پر دم کر کے پئے اور شوہر سے ہمبستر ہوتی رہے انشاء اللہ اولاد ہوگی اور اس کی مداومت مشکل کاموں کو آسان کرتی ہے جو کوئی وضو کرنے میں اپنی پیشانی پر شہادت کی انگلی سے یہ اسم لکھ لیا کرے ہر شخص اس کو دوست رکھے گا۔

اَلْغَفَّارُ ۔ جمالی ۔ عدد ۱۲۸

اس کی مداومت دوزخ سے نجات دلاتی ہے جو کوئی بعد نماز جمعہ سو بار کہے یَا غَفَّارُ اِغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ ط اللہ تعالےٰ اس کو بخش دے گا۔

اَلْقَهَّارُ ۔ جلالی ۔ عدد ۳۰۶

اس کی مداومت سے خاتمہ بخیر ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت دور ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کا عشق میسر آتا ہے اگر سنت و فجر کے درمیان بہ نیت مقہوری اعداء سو بار پڑھے تو دشمن مقہور ہوتے ہیں اور ہر مشکل آسان
ہوتی ہے۔

اَلْوَهَّابُ ۔ جلالی ۔ عدد ۱۴

اس کی مداومت سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے اور دولتمندی حاصل ہوتی ہے اور جو کوئی نماز چاشت کے بعد آیت سجدہ پڑھ کے سجدے میں سات بار یہ اسم پڑھے خلق سے بے پرواہ ہوگا۔ سخت حاجت والے کو چاہئے کہ آدھی رات کو گھر کے صحن میں یا مسجد میں تین سجدے کرے اور ہاتھ اٹھا کر سو بار یہ اسم پڑھے فوراً حاجت روا ہوگی۔

اَلرَّزَّاقُ ۔ جمالی ۔ عدد ۳۰۸

جو شخص نماز فجر کے بعد ہمیشہ گھر کے چاروں کونوں میں دس دس بار یہ اسم پڑھ کے دم کرے گا تو مفلسی دور ہوگی۔ مگر داہنی طرف سے شروع کرے اور منہ قبلہ کی طرف سے نہ پھیرے اور پانچسو پینتالیس (۵۴۵) بار روزانہ پڑھنے والے کا رزق کشادہ ہوتا ہے۔ دشواریاں دفع ہوتی ہیں۔ ہزار بار چالیس دن تک پڑھے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے

اَلْفَتَّاحُ ۔ جمالی ۔ عدد ۴۸۹

صفائی قلب کے لئے نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینہ پر رکھ کر ستر بار پڑھا کرے تو آفات ارضی و سماوی اس سے دور رہیں گے اور وہ محفوظ رہے گا۔ دشمنوں کی ایذارسانی اور بدزبانی سے۔

اَلْعَلِیْمُ ۔ مشترک ۔ عدد ۱۵۰

اس کی مداومت سے کشف حاصل ہوتا ہے اور معرفت الٰہی حاصل ہوتی ہے جو کوئی شب جمعہ میں بعد نماز عشاء سجدے میں سو بار اس اسم کو پڑھ اسی طرح سو جائے تو ہونے والے امور سے خواب میں باخبر ہوگا۔ حاجت

اس میں دو دو رکعت نماز ادا کر کے قبلہ رو بیٹھ کے یہ اسم ہزار بار پڑھے۔

اَلْقَابِضُ ۔ جمالی ۔ عدد ۹۰۳

جو کوئی چالیس روز تک روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کے کھا لیا کرے دنیا میں بھوک سے اور عقبیٰ میں دوزخ سے امن میں رہے گا اور روز بیس بار پڑھنے والے کے دشمن دفع ہوں اور ہر طرح سے محفوظ رہے۔

اَلْبَاسِطُ ۔ جمالی عدد ۷۲

صبح کے وقت ہاتھ اٹھا کے پڑھے۔ دس بار۔ پھر ہاتھوں کو منہ پہ پھیرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مشکلات سے نجات پائے گا۔

اَلْخَافِضُ ۔ جمالی ۔ عدد ۱۴۸۱

جو کوئی تین روزے رکھے چوتھے دن ایک مجلس میں یہ اسم ستر بار پڑھے۔ دشمن پر فتح پائے گا۔

اَلرَّافِعُ ۔ جلالی ۔ عدد ۳۵۱

بعد زوال یا نصف شب کے بعد جو کوئی یہ اسم سو بار پڑھے برگزیدہ خلق اور مالدار ہوگا اور ہر روز بیس بار پڑھنے والے کی حاجت پوری ہوگی۔

اَلْمُعِزُّ ۔ جلالی عدد ۱۱۷

شب دوشنبہ یا شب جمعہ میں عشاء کے وقت ایک سو چالیس بار پڑھنے والا منظر خلق میں باہیبت اور ماسوی اللہ سے نڈر ہوگا۔

اَلْمُذِلُّ ۔ جلالی ۔ عدد ۷۷۰

ظالم و جابر دشمن سے ڈرنے والا پچھتر بار یہ اسم پڑھ کے سجدے میں کہے۔ الٰہی شر سے فلاں کے مجھے نجات دے انشاء اللہ نجات پائیگا اور ہر طرح محفوظ رہیگا۔

اَلسَّمِیْعُ ۔ جلالی عدد ۱۸۰

جو کوئی پنجشنبہ کو چاشت کی نماز کے بعد پانچسو بار پڑھے اور بقول دیگر روزانہ سو بار پڑھے جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔

اَلْبَصِیْرُ ۔ جمالی ۔ عدد ۳۰۲

سنت و فرض فجر کے درمیان ایک سو بار پڑھنے والا مخصوص طور پر منظر عنایت الٰہی ہوگا اور جو کوئی سات مرتبہ عصر کے بعد پڑھتا رہے مرگ مفاجات سے محفوظ رہے گا۔

اَلْحَکَمُ ۔ جلالی ۔ عدد ۶۸

جو کوئی شب جمعہ میں اور بقول بعض آدھی رات کو یہ اسم اس قدر پڑھے کہ بے ہوش ہو جاوے کہ اس کا دل معدن اسرار ہوتا ہے اور نماز پنجگانہ کے بعد اسی مرتبہ پڑھنے والا محتاج اور پریشان نہیں رہتا۔

اَلْعَدْلُ ۔ جلالی ۔ عدد ۱۰۴

جو کوئی یہ اسم شب جمعہ میں۔ روٹی کے بیس ٹکڑوں پر لکھ کے کھائے تمام خلق اس کی تابعدار ہوگی اور نماز مغرب کے ہزار بار پڑھنے والا آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہتا ہے۔

اَللَّطِیْفُ ۔ جمالی ۔ عدد ۱۲۹

جس نیت سے اس اسم کو دو رکعت نفل کے بعد سو بار پڑھے کام پورا ہو۔ لڑکیوں کے عقد اور مریض کی صحت کیلئے سو بار مداومت کرے

اَلْخَبِیْرُ ۔ مشترک ۔ عدد ۸۱۲

اس اسم کی مداومت سے نفس امارہ مطیع ہو جاتا ہے۔ طلب استخارہ کے لئے یا خبیر اخبرنی ایکہزار بار پڑھ کے چپ سو رہے۔

اَلْحَکِیْمُ - جمالی - عدد ۸۸

کاغذ پر لکھ کے دھوئے اور پانی کھیت میں چھڑکے۔ کھیتی زائد ہوگی۔ ایک ہزار مرتبہ بعد نماز ظہر پڑھنے والا تمام خلائق کی نظروں میں عزیز ہوگا۔

اَلْعَظِیْمُ - جمالی - عدد ۹۲۰

اس کی مداومت عزیز خلائق کرتی ہے۔ درد شکم وغیرہ کے لئے سات بار دم کر کے پلائے درد جاتا رہے گا۔

اَلْغَفُوْرُ - جمالی - عدد ۱۲۰۶

درد سر اور ہر مرض کے لئے حروف مقطعات یا غَفُوْرُ لکھ کر پلاوے شفا ہوگی۔ تپ لرزہ، غم و اندوہ کے دفع کے لئے روٹی پر لکھ کر کھلائے جو کوئی سجدہ میں یاَ رَبِّ اغْفِرْلِیْ روزانہ تین بار پڑھا کرے اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا۔

اَلشَّکُوْرُ - جمالی عدد ۵۲۶

دفع تنگی معیشت و تاریکی چشم و دل کے لئے اکتالیس بار پڑھے۔

اَلْعَلِیُّ - جمالی - عدد ۱۱۰

اس کی مداومت کرنے والا نگاہ خلائق میں بزرگ مرتبہ اور مالدار ہوتا ہے۔

اَلْکَبِیْرُ - جمالی - عدد ۲۳۲

اس کی مداومت ہر مہم کو آسان اور نگاہِ امراء میں معظم کرتی ہے۔

اَلْحَفِیْظُ - جمالی - عدد ۹۹۸

اس کو اپنے پاس رکھنے والا جن، بھوت، غرق، حرق وغیرہ سے

محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنے والا زنا چوری سے باز آتا ہے۔

اَلْمُقِیْتُ - جلالی - عدد ۵۵۰

دفع غربت و بدخوئی و گریۂ اطفال کے لئے پانی پر روزانہ دس بار دم کر کے پلائے اگر روزہ سے ہلاکت کا ڈر ہو تو پھول پر دم کر کے سونگھے قوت آجائے گی

اَلْحَسِیْبُ - جمالی - عدد ۸۰

حَسْبِیَ اللّٰہُ الْحَسِیْبُ ایک ہفتہ تک صبح و شام ستر بار پڑھے چور۔ حاسد، ظالم و دشمن۔ چشم زخم سے نجات پائے گا۔ اور تمام کام درست ہوں گے۔

اَلْجَلِیْلُ - جمالی - ۷۳

اس کو مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھے عزیز و جلالت ہوگا۔ جو کوئی دس بار پڑھ کے اپنے اسباب پر دم کرتا رہے تو اسباب چوری سے محفوظ رہے گا۔

اَلْکَرِیْمُ - جمالی - عدد ۲۷۰

اس کو زیادہ پڑھنے والا مکرم و معزز ہوگا۔

اَلرَّقِیْبُ - جمالی - عدد ۳۱۲

سات بار اہل و عیال و اسباب پر دم کرے دشمن سے حفاظت میں رہے گا کوئی ہرگز نہ اٹھائے گا۔

اَلْمُجِیْبُ - جلالی - عدد ۵۵

قبولیت دعا کے لئے روزانہ ستر بار ورد رکھے۔ انشاء اللہ

تعالیٰ ہر دعا مستجاب ہوگی۔

الواسعُ ۔ جلالی عدد ۱۳۷

اس کی مداومت سے قناعت و برکت و مالداری حاصل ہوتی ہے۔

اَلحَکِیمُ ۔ جمالی ۔ عدد ۷۸

اس کی مداومت سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں

اَلحَکِیمُ ۔ جمالی ۔ عدد ۷۸

اس کی مداومت سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں ۔ دس بار روز پڑھنے والے کی عقل بڑھتی ہے ۔

اَلوَدُودُ ۔ جمالی ۔ عدد ۲۰

اگر شوہر ناراض ہو سو بار کھانے پر دم کر کے عورت کھلاتی رہے شوہر راضی ہو جائے گا۔

المُجِیبُ ۔ جمالی ۔ عدد ۵۷

جذامی اور برص کی بیماری والا ایام بیض کے روزے رکھے اور افطار کے وقت ایک ہزار بار یہ اسم پانی پر دم کر کے پیئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ صحت کلی حاصل ہوگی ۔ دوسرے امراض کا مریض ایسا ہی کرے ۔ فائدہ مند ہوگا۔

اَلبَاعِثُ جمالی ۔ عدد ۵۷۳

جو کوئی سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کے یہ اسم سو بار پڑھا کرے اس کا دل روشن ہوگا اور برکات حاصل ہوں گے۔

اَلشَّہِیدُ ۔ جمالی ۔ عدد ۳۱۹

عیر صالح اولاد کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یہ اسم اکیس بار روزانہ پڑھا کرے

اولاد صالح ہوگی ۔ گم شدہ مال کے ملنے کے لئے کاغذ کے چاروں کونوں پر یہ اسم او بیچ میں مال کا نام لکھ کے آدھی رات کو ہاتھ پر رکھے او منہ آسمان کی طرف کر کے الہٰی میرا یہ گم شدہ مال مل جانے کہے انشاء اللہ جلد مل جائے گا ۔ قیدی آدھی رات کو سر برہنہ ایک سو ساٹھ (۱۶۰) بار پڑھے رہا ہو جائے گا۔

اَلوَکِیلُ ۔ جمالی ۔ عدد ۶۶

اس کی مداومت برق و آتش و باراں و دشمن سے بے خوف کرتی ہے ۔

اَلقَوِیُّ ۔ جلالی ۔ عدد ۱۱۶

جمعہ کی دوسری ساعت میں سو بار پڑھے دشمن مقہور ہوں گے اور نسیان دفع ہوگا۔

اَلمَتِینُ ۔ جمالی ۔ عدد ۵۰۰

زیادتی شیر کے لئے گلے میں ڈالے منصب و جاگیر پانے کیلئے یکشنبہ کی پہلی ساعت میں تین سو ساٹھ بار پڑھے ۔

اَلوَلِیُّ ۔ جمالی ۔ عدد ۴۶

اس کی مداومت کرنے والا دلوں کی باتوں سے آگاہ ہوتا ہے اور بری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔

الحَمِیدُ ۔ جمالی ۔ عدد ۶۱

اس کو سو بار پڑھنے والا فحش، بدزبانی اور افعال ناپسند سے محفوظ رہتا ہے ۔

اَلْمُحْصِیُ ۔ جلالی ۱۴۸

شب جمعہ کو ایک ہزار ایک بار پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔

اَلْمُبْدِئُ ۔ جلالی ۔ عدد ۵۶

جس کا حمل ساقط ہو جایا کرتی ہے اس کے پیٹ پر روزانہ ستر بار دم کرے تو زندہ اولاد ہوگی۔ اس کی مداومت بدگوئی اور جھوٹ سے بالکل بچاتی ہے۔

اَلْمُعِیْدُ ۔ جلالی ۔ عدد ۱۲۴

گم شدہ کے لئے آدھی رات کو گھر کے کونوں پر ستر ستر بار دم کر کے کہے یا مُعِیْدُ فلاں واپس آجائے تو انشاءاللہ جلد واپس آئے گا۔

اَلْمُحْیِیُ ۔ جلالی ۔ عدد ۶۸

درد اندام و امراض کے دفعیہ کے لئے سات دن تک سات بار پڑھے اچھا ہو جائے گا۔

اَلْمُمِیْتُ ۔ جلالی ۴۹۰

اس اسم کو پڑھتے پڑھتے سو جانے والے کا نفس اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔

اَلْحَیُّ ۔ جلالی ۱۸

اس کی زیادتی اور مداومت تسخیر قلوب کے لئے اور دفع سحر کے لئے مفید ہے۔

اَلْوَاجِدُ ۔ جلالی ۔ ۱۴

خلوت میں اس اسم کو پڑھنے والا جلد مالدار ہوتا ہے۔

اَلْمَاجِدُ ۔ جلالی ۔ عدد ۴۸

خلوت میں اتنا پڑھے کہ بے ہوش ہو جائے تو انوار الٰہی حاصل ہوں گے اور اس کی مداومت کرنے سے مخلوق خدا کی نظروں میں عزت ہوگی۔ مرتبے میں بلندی ہوگی۔ اور رزق میں کشائش اور روزگار میں برکت ہوگی۔

اَلْوَاحِدُ ۔ جلالی ۔ عدد ۱۹

اگر کسی کا دل خلوت سے ہراساں ہو تو ایک ہزار ایک بار یہ اسم پڑھے خوف جاتا رہے گا۔ اور مقرب حضرت حق ہوگا۔ طلب دولت کے لئے بہت پڑھے اور طلب اولاد کے لئے اپنے پاس رکھے۔

اَلْاَحَدُ ۔ جلالی ۔ عدد ۱۳

جو کوئی یہ اسم نو بار پڑھ کے حاکم کے پاس جائے عزت اور سرفرازی پائے گا۔ اَلْوَاحِدُ اَلْاَحَدُ کو ملا کے ایک سو بار پڑھے اور بار تعویذہ پر دم کرے صحت ہوگی۔

اَلصَّمَدُ ۔ جلالی ۔ عدد ۱۳۴

جو کوئی سحر کے وقت یا آدھی رات کو سجدہ کر کے ایک سو پندرہ بار یہ اسم پڑھے صادق الحال والقال ہو اور ظالم سے چھٹکارہ پائے۔ زیادہ پڑھنے والا بھوکا نہ رہے گا۔

اَلْقَادِرُ ۔ جلالی ۔ عدد ۳۰۵

جو کوئی وضو میں ہر عضو دھوتے وقت یہ اسم پڑھے ظالم ... محفوظ رہے گا۔ اور دشمن پر فتح پائے گا۔ مشکل کے

حل ہونے کے لیے اکتالیس بار پڑھے ۔

اَلْمُقْتَدِرُ ۔ جلالی ۔ عدد ۷۴۴

رجوعِ خلائق کے لیے سوتے وقت اور صبح کو اٹھتے وقت بیس بیس بار پڑھے اس کی مداومت غفلت اور نسیان دور کرتی ہے ۔

اَلْمُقَدِّمُ ۔ جلالی ۔ عدد ۱۸۴

جنگ میں پڑھنے یا پاس رکھنے والا فتحیاب ہوتا ہے اور مداومت سے متبع شریعت ہو جاتا ہے ۔

اَلْمُؤَخِّرُ ۔ جلالی ۔ عدد ۸۴۶

سو بار پڑھنے والے کی مشکل حل ہو جاتی ہے اور ماسوی اللہ سے مستغنی ہوتا ہے اور نفس مطیع ہو جاتا ہے ۔

اَلْاَوَّلُ ۔ جلالی ۔ عدد ۳۷

مراد بر آنے کے لیے سو بار چالیس دن پڑھے اولاد ہونے کے لئے چالیس شب جمعہ ہر شب میں ہزار مرتبہ پڑھے

اَلْاٰخِرُ ۔ جلالی ۔ عدد ۸۰۱

نجاتِ عقبیٰ کے لیے اس کی مداومت کرے

اَلظَّاهِرُ

نمازِ اشراق کے بعد پانچ سو بار پڑھنے والے کا دل روشن ہوتا ہے ۔ بصارت زیادہ ہوتی ہے اور برق و باد سے بے خوف ہوتا ہے

اَلْبَاطِنُ ۔ مشترک ۔ عدد ۶۲

اس کی مداومت عزیز خلائق کرتی ہے ۔ تینتیس ۳۳ بار روزانہ پڑھنے والا

واقفِ اسرارِ الٰہی ہوتا ہے ۔

اَلْوَالِیُ ۔ جمالی ۔ عدد ۴۷

تسخیر کے لیے گیارہ بار روزانہ پڑھے اس کی مداومت سے گھر آفاتِ ارضی و سماوی سے محفوظ رہتا ہے ۔

اَلْمُتَعَالِیُ ۔ جلالی ۔ عدد ۵۵

اس کی مداومت مصائب کو دور کرتی ہے اگر یک شنبہ کو بوقت شب غسل کرے اور منہ آسمان کی طرف کر کے دعا مانگے قبول ہوگی ۔

اَلْبَرُّ ۔ جلالی ۔ عدد ۲۰۲

زانی اور شراب خور سات بار روزانہ پڑھے تائب ہو جائیگا ۔ اس کی مداومت آفات سے بچاتی ہے ۔

اَلتَّوَّابُ ۔ جمالی ۔ عدد ۴۰۹

چاشت کی نماز کے بعد تین سو ساٹھ بار پڑھے توبۂ نصوح حاصل ہوگی ۔ نفس مطیع ہوگا ۔ مشکلیں حل ہوں گی ۔

اَلْمُنْتَقِمُ ۔ جمالی ۔ عدد ۶۳۰

جو کوئی دشمن کی جفا پر صبر نہ کر سکے تین جمعوں تک اس کی مداومت کرنے دشمن دوست ہو جائے گا ۔ آدھی رات کو ایک ہزار جس مراد کے لیے پڑھے بر آوے گی ۔

اَلْعَفُوُّ ۔ مشترک ۔ عدد ۱۵۶

روزانہ اس کی مداومت گناہ معاف کراتی ہے ۔

اَلرَّءُوْفُ ۔ جمالی ۔ عدد ۲۸۶

دس بار پڑھنے والا ظالم کے پنجہ سے چھوٹتا ہے اور مداومت

عزیز خلائق کرتی ہے۔

مَالِکُ الْمُلْکِ - جلالی - عدد ۲۱۲

اس کی مداومت مالدار بناتی ہے۔ جہات وارین سرہوتے ہیں

ذُوالْجَلَالِ وَالْاِکْرَام - جلالی - عدد ۱۰۹۴

اس پر مداومت عزیز خلائق کرتی ہے اور عالم ارواح سے باخبر ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے اور اسی کے ذریعہ سے آصف بن برخیا تخت بلقیس دم کے دم میں لے آیا تھا۔

اَلْمُقْسِطُ - جلالی - عدد ۲۰۹

سو بار پڑھنے والا وسواس اور شر شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ سات بار پڑھنے والے کی ہر مراد پوری ہوتی ہے۔

اَلْجَامِعُ - جلالی - عدد ۱۱۴

جس کے اہل و اقارب و اتباع متفرق ہوں چاشت کے وقت غسل کرے اور آسمان کی طرف منہ کرکے اس اسم کو دس بار پڑھے اور ایک ایک انگلی ہر بار بند کرتا جائے جلد سے جلد سب جمع ہو جائیں گے۔

اَلْغَنِیُّ - جلالی - عدد ۱۰۶۰

جو ستر بار یہ اسم پڑھے مال میں برکت ہو، امیر ہو جائے

اَلْمُغْنِیُّ - جمالی - عدد ۱۱۰۰

جو شخص گیارہ سو مرتبہ دس جمعوں تک پڑھے خلق سے بے پرواہ ہو جائے۔

اَلْمَانِعُ - جلالی - عدد ۱۶۱

اگر زوجہ سے زوج ناراض ہو تو زوجہ بستر پر جاتے وقت

ل بار پڑھے زوج راضی ہو جائے گا

اَلضَّارُّ - جلالی - عدد ۱۰۰۱

اس کی مداومت قرب حق حاصل کراتی ہے

اَلنَّافِعُ - جمالی - عدد ۲۰۱

کشتی میں بیٹھنے والا اگر اس کو زیادہ پڑھے ڈوبنے سے محفوظ رہے گا اور جس کام کی ابتدا میں اکتالیس بار پڑھے وہ حسب دلخواہ ہو گا۔

اَلنُّوْرُ - جمالی - عدد ۲۵۶

جو شخص جمعہ کی رات کو سات بار سورۂ نور اور ایک ہزار بار یہ اسم پڑھے گا اس کا سینہ و دل معرفت الٰہی سے روشن و منور ہو گا۔

اَلْهَادِیُ - جمالی - عدد ۲۰

اس کی مداومت معرفت حاصل کراتی ہے

اَلْبَدِیْعُ - جلالی - عدد ۸۶

جس کو کوئی غم یا اہم در پیش ہو۔ ستر ہزار بار اور بقول بعض بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہزار بار سات دن پڑھے، کامیاب ہو گا۔ اگر باوضو قبلہ رو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو خواب میں ہونے والی بات معلوم ہو جائے گی۔

اَلْبَاقِیُ - جلالی - عدد ۱۱۳

قبولیت اعمال صالحہ کے لئے اس کی مداومت کرے تو مالدار بھی ہو جائے گا۔

اَلْوَارِثُ - جمالی - عدد ۷۰۷

جو کوئی آفتاب نکلتے وقت سو بار پڑھے رنج دور ہوگا اور
مداومت آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھتی ہے۔

اَلرَّشِیْدُ - جمالی - عدد ۵۱۴

سوتے وقت ہزار بار پڑھے سرانجام مہم کی صورت خواب
میں معلوم ہوگی۔

اَلصَّبُوْرُ - جلالی - عدد ۲۹۶

۳۳
تینتیس بار روزانہ پڑھنے والا مصائب سے نجات پائے گا اس کی
مداومت مقبول خلائق کرتی ہے۔ دشمن دوست ہو جاتے ہیں۔

خواص اسمائے نبوی

اللہ جل شانہ کے اسمائے حسنیٰ کے بعد صوفیائے کرام نے اسمائے
نبوی کے بھی کثیر افعال و خواص اپنی اپنی کتب میں درج کئے ہیں او
بروقت ضرورت ان کا ورد کرنے سے حیرتناک اثرات کا پیدا ہونا
کیا ہے۔ عقیدتمندوں کے لئے ہم مختصراً درج ذیل کرتے ہیں تاکہ طالبین
اُن سے مستفید ہونے کا موقع مل سکے۔ اور اس مختصر کتاب میں وہ سما
بھی سکیں

طالبین کو چاہئے کہ جائز ضرورت کے وقت ان اسمائے عا
ورد کریں اور اس امر کا خیال رکھیں کہ بروقت اوراد کم از کم پا
سات مرتبہ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ
مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔

مُحَمَّدُ

چار سو بار روزانہ پڑھنے سے دولتمندی اور غنا حاصل ہوگا۔

اَحْمَدُ

تسخیر خلائق کے لئے ایک سو بار روزانہ پڑھنا چاہیے۔

حَامِدٌ

ہمیشہ پچاس بار پڑھنے والا دنیا میں خوش اور قیامت کے دن
حامدوں میں اٹھایا جائے گا۔

مَحْمُوْدُ

تونگری کے لئے چار سو بار روزانہ ورد کرے انشاء اللہ مقصد حاصل ہوگا۔

قَاسِمُ

زیادتی علم کے لئے دس بار روزانہ ورد کرے انشاء اللہ تعالیٰ علم کی
دولت سے مالا مال ہوگا۔

عَاقِبُ

حاجت برآری کے لئے چالیس دن تک سو بار روزانہ پڑھے
مشکل آسان ہوگی۔

فَاتِحُ

حصول عشق الہی کے لئے دس بار روزانہ ورد رکھے

خَاتِمُ

ہر اتوار کو ستر بار پڑھے انشاء اللہ جو مقصد رکھتا ہوگا پورا ہوگا۔

حَاشِرُ

زیادتی علم کے لئے سو بار ورد کرے

مَاحِیْ

مغفرت کے لئے صرف تین بار روزانہ ورد کرے۔

دَاعِیْ

تسخیرِ خلائق کے لئے بیاسی بار روزانہ پڑھا کرے انشاء ال

سِرَاجُ

قلب کی نورانیت کے لئے اور صفائی کے دو سو بار روزا
ورد کرنا چاہیئے۔

بَشِیْرُ

رات کو تین سو بار ورد رکھنے والا تاریکی قبر سے محفوظ ر

نَذِیْرُ

دفع سوال قبر کے لئے پچاس بار روزانہ ورد رکھے۔

رَسُوْلُ

دفع غربت کے لئے سو بار ورد رکھے چند دنوں میں خدا
چاہا افلاس دور ہو جائے گا۔

ھَادِیُّ

راہِ راست پانے کے لئے جس قدر زیادہ ورد رکھا جائے بہتر

نَبِیُّ

انکشاف اسرار حق کے لئے ایک ہزار روزانہ ورد رکھے۔

مُنْتَقٰی

عذاب الٰہی سے محفوظ رکھنے کے دو سو بار روزانہ پڑھنا چا

مَهْدِیُّ

کھانا کھاتے وقت دس بار پڑھ لیا کرے۔ انشاء اللہ
تعالیٰ معدہ خراب نہ ہو گا۔

خَلِیْلُ

بعد عشاء سو بار پڑھ کے سو رہے بُرے خواب نہ دیکھے گا۔

وَلِیُّ

ایک ہزار بار روزانہ ورد رکھنے والا قرب الٰہی پاتا ہے۔

حَمِیْدُ

ایک سو بار روزانہ ورد رکھے بُرے خصائل دفع ہوں گے

نَصِیْرُ

راہ میں جو کوئی پڑھتا ہوا چلے نہ تھکے گا

یٰسٓ

آدھی رات کو سر برہنہ ایک ہزار بار پڑھے ہر کام پورا ہو

طٰہٰ

نیا کپڑا یا نئی چیز استعمال کرتے وقت تین بار پڑھے برکت حاصل ہو گی

مُزَّمِّلُ

مالداری کے لئے بعد مغرب ایک ہزار روزانہ ورد کرے۔

مُدَّثِّرُ

فریبِ شیطان سے بچنے کے لئے سو بار بعد فجر پڑھا کرے

حَبِیْبُ

محبوبِ خلائق ہونے کے لئے ایک ہزار بار روزانہ ورد کرے۔

کَلِیْمُ

مسواک کرتے وقت دس بار پڑھے دانت مضبوط رہیں گے۔

عادل

مہربانی خلائق کے لئے دس بار پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ مقصد دلی حاصل ہو۔

حلیم

ایک سو بار پڑھتے رہے بیدبرباد ہوگا۔

نور

شب کو دس بار پڑھنے والا خواب میں نہ ڈرے گا۔

متین

ذُوالقُوَّۃِ المَتِین ایک سو بار ورد رکھنے والا مراد دلی پاتا ہے

برہان

مالداری کے لئے گیارہ بار روزانہ ورد رکھے مقصد حاصل ہوگا۔

مطیع

بخشش کے لیے پچاس بار ورد رکھے مقصد حاصل ہوگا۔

ذاکر

دفع نسیان کے لئے ایک سو بار روزانہ ورد رکھے۔

امین

دفع ذلت کے لیے ہزار بار روزانہ ورد رکھے انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا۔

واعظ

رمضان بھر ایک سو بار ورد رکھے عبادت قبول ہوگی۔

قوت گویائی اور دولت حاصل کرنے کے لئے پانچسو بار ورد رکھے۔

مصطفٰے

توفیق عبادت پانے کے لئے ایک سو بار روزانہ پڑھا کرے

منفی

بعد عصر ایک سو بار پڑھنے والا بلاؤں سے نجات پاتا ہے۔

مختار

حکومت پانے کے لیے پچاس بار پڑھے روزانہ بلاناغہ حصول مقصد ہوتا ہے۔

قائم

آدھی رات کو ایک ہزار پڑھے پانی برسے گا۔

مصدق

ایک سو ایک بار روزانہ پڑھے جھوٹ بولنے کی عادت دور ہوگی۔

مجتبٰی

حصول اجابت ظاہری و باطنی کیلئے ایک سو بار روزانہ ورد رکھے

رہبان

تراسٹھ بار روزانہ ورد رکھنے والا صاحب فہم ذکار ہوگا۔

حافظ

ہر روزانہ ایک سو بار پڑھنے والا آفات ارضی وسماوی سے محفوظ رہے گا۔

شہید

مسواک کرتے وقت دس بار پڑھے دانت مضبوط رہیں گے۔

صَاحِبُ

ایک سو بار روزانہ بیمار پر دم کرنے سے صحت حاصل ہوتی ہے

نَاطِقُ

تین بار ورد رکھنے والے پر کوئی حربہ اثر نہ کرے گا

صَادِقُ

دافع آسیب کے لئے ۹۵ بار سات دن تک آسیب زدہ پر دم کرے اچھا ہو جائے گا۔

مَكِينُ

زیادتی بصارت کے لئے دس بار پڑھے نہایت مفید ہوگا۔

مَرْطُ

سگ و کژدم و مار گزیدہ پر ہزار بار پڑھ کر دم کرے صحت ہوگی

مَسِيحُ

زخم اور درد پر نو بار دم کرے صحت ہوگی۔

نَجِيبُ

باؤلے کتے پر چالیس بار پڑھ کر دم کرے بھونکنا اور کاٹنا چھوڑ دے گا۔

حَرِيصُ

پانی پر ایک سو بار دم کرکے پیٹ کے درد والے کو پلا دے اچھا ہو جاوے گا

نَقِيُّ

عزت و حشمت کے لئے ایک سو بار روزانہ ورد کرے۔

انشاء اللہ تعالیٰ مطلب پورا ہوگا

عَزِيزُ

محبت اور دفع آسیب کے لئے انیس بار ورد کرے

حِجَازِيُّ

حصول نسبت کے لئے چالیس یا اکتیس بار روزانہ ورد کرے

ذُوْ وُقُ

جو کوئی دس بار پڑھ کے حاکم کے سامنے جائے حاکم مہربان

كَرِيمُ

غیب سے روزی پانے کے لئے دو سو ستر بار روزانہ ورد کرے

عَلِيمُ

حصول علم کے لئے ایک سو بار روزانہ ورد کرے۔

وَحِيدُ

حصول نعمت و دولت کے لئے روزانہ تین بار پڑھے مقصد حاصل ہوگا۔

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ؕ

عملیات تسخیر و محبت

ان عملیات کے تحت جو عملیات ہدیۂ ناظرین کئے جا رہے ہیں وہ معتبر اور مستند کتابوں اور خاص الخاص ساتھیوں سے اخذ کئے

اور بعض ذاتی تجربہ کرنے کے بعد درج کئے جاتے ہیں لیکن یہ تمام عملیات جائز ضرورتوں میں کام میں لائے جائیں ناجائز طور پر استعمال ہونے والے اپنے سوء عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔

تسخیر خلائق کیلئے

ہر روز وقت طلوع آفتاب اول و آخر سات سات مرتبہ درود شریف اور درمیان تین سو ساٹھ مرتبہ یہ دعا پڑھے
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ يَا حَيُّ حِيْنَ كُلِّ شَيْءٍ يَخْرُجُ سَكَرُوبٌ غِيَاثٌ وَمَعَاذٌ يَا حَيُّ سُبُّوحٌ تمام مخلوق خدا کی نگاہ میں معزز رہے گا۔ اور دشمن اس کا ہمیشہ قہر الٰہی میں مبتلا رہے گا۔

عمل تسخیر محبوب مجرب و آزمودہ

اَلَمْ نَشْرَحْ عروج ماہ کی پہلی جمعرات سے پابندی وقت و مقام ہر روز بعد نماز عشاء ۲۷ بار پڑھے بعد پڑھنے کے الم نشرح کے چار تعویذ لکھے۔ پڑھنے میں بھی فلاں بن فلاں کی جگہ کی جگہ نام مطلوب اور اس کی ماں کا ہو اور چاروں تعویذوں میں بھی مطلوب اور اس کی ماں کا نام ضرور لکھے اور تعویذ لکھتے وقت بھی خیال رکھے العجل العجل العجل کے الوحا الوحا الوحا تین بار رکھے دوسرے یہ کہ پڑھنے میں تو الم نشرح جس طور سے لکھی ہے اسی طریقہ سے ۲۵ بار روز چالیس یوم تک بعد از عشاء پڑھے لیکن تعویذ

بجائے بحق چہار دہ معصومین علیہم السلام کے بحق اربعہ عشرہ معصومین علیہم السلام چاروں تعویذوں میں لکھیں چاروں تعویذوں کو اس طرح دفن کرے کہ ایک مسجد میں ایک پتھر کے نیچے ایک پرانی قبر میں گاڑ دے اور ایک کنوئیں میں ڈالے اور اس طریقہ سے الم نشرح پڑھے اور اسی کے چار تعویذ لکھے مگر تعویذ لکھتے وقت جو باتیں متعلق تعویذ سمجھائی ہیں اُن کا خیال رکھیں غلطی نہ کریں۔

(ذیل) پڑھنے اور لکھنے میں فلاں کی جگہ مطلوب کا نام ہو انشاء اللہ تعالیٰ مطلوب تمام عمر مطیع رہے گا۔ عمل شریف یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ أَلَمْ نَشْرَحْ بستم سر فلاں لَكَ صَدْرَكَ بستم سینہ فلاں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي بستم دل فلاں أَنْقَضَ ظَهْرَكَ بستم پشت فلاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بستم خواب فلاں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بستم قرار فلاں إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بستم زبان فلاں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ بستم دہان فلاں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ بستم شنوائی و بینائی و خوردن و نوشیدن و گفتن و رفتن فلاں بنت فلاں علیٰ حب فلاں بن فلاں بحق بقدرت آیات المعظم المعظم و بحق خاتم سلیمان بن داؤد علیہما السلام و بحق چہاردہ معصومین علیہم السلام العجل العجل العجل تا کہ من جنیبہ قرار گیرد و تا من نہ گشایم ہیچ نکشاید

ہدایت:۔ یہ عمل خاص ایک صاحب نسبت بزرگ کا عطیہ ہے اور ان کے فیوضات روحانی کی برکت اس میں شامل ہے صرف جائز ضرورت کے لئے اجازت ہے۔

خدا چاہے گا تو تھوڑے روز میں وہ مطیع و مسخر ہو جائے گا لیکن بسم اللہ سمیت پڑھے بارہا تجربہ میں آیا ہے۔ دعا یہ ہے۔
لا الٰہ انہس اللہ ملامس محمد رسول اللہ فلانے کو رسول اللہ فلاں نے کو مجھ بغیر ایک ساعت کل ندیھس عیسٰی۔ ذکوی بود حاتش موعلی مہری بر زبانش فلانے جگہ نام مطلوب کا لیوے۔

تسخیر محبوب کے لئے ایک اور آسان عمل

تھوڑا موم اچھا اور صاف و ستھرا و پاکیزہ لاوے اور آدمی کی صورت بناوے اور نو عدد سوئی لا کر کے ایک سوئی اس کے سر میں اور دو سوئیاں اس کی آنکھوں میں اور اس کے دونوں کانوں میں اور اس کے دونوں ہاتھوں میں اور اس کے دونوں پاؤں میں چبھا دے اور اس تعویذ کو لکھ کے اس کے شکم میں رکھے مجرب اور فوراً اثر کرنے والا ہے۔ عمل یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ط ان اللہ غفور الرحیم ط بسم اللہ شافی یا حافظ المبین بحتم خواب فلاں بن فلاں علیٰ حب فلاں بن فلاں (فلاں بن فلاں کی جگہ نام طالب و مطلوب مع ان کی ماں کے نام کے لکھنا چاہئے۔

تسخیر محبوب کیلئے ایک اور عمل

مندرجہ ذیل تسخیر محبوب کے لئے عجیب و غریب صفات رکھتا ہے کبھی خطا نہیں جاتا۔ بشرطیکہ جائز محبت کے لئے تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ کیا جائے

اس عمل مبارک کی اسناد بہت طویل ہیں تجربہ سے خود بخود ظاہر ہوں گی

جب کسی سنگدل انسان کو خواہ وہ عورت یا مرد تابعدار بنانا چاہے تو عروج ماہ میں اس عمل کو کسی مبارک ساعت سے شروع کرے اور ہر روز تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھے۔ خدا نے چاہا تو چند دنوں میں مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا۔ بار ہا مرتبہ کا مجرب ہے اپنی سریع الاثری میں کبھی خطا نہیں کرتا۔ عمل شریف یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ط یا ذو القوۃ المتین اغظم علیٰ قلب فلان (فلاں کی جگہ مطلوب اور اس کی ماں کا نام لیا جائے۔

محبوب کو مطیع کرنے کیلئے

کسی انسان کو مطیع و فرمانبردار کرنے کے لئے حسب ذیل عمل نہایت مجرب ہے۔ چاہئے کہ مطلوب کے پاؤں کے نیچے کی خاک

ائے اور اس پر تو بار الحمد اور دس بار قُلْ هُوَ اللّٰهُ شریف پڑھ کر
م کرے اور کہے بستم خواب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلا
فلاں بن فلاں کی جگہ نام طالب و مطلوب مع نام ماں کے لکھنا
ہیے) اس دم شدہ خاک کو اپنے پاس رکھنے سے محبوب کے
ل میں محبت کا ایک سمندر موجیں لینے لگے گا اور وہ چند یوم
میں بندہ بے دام ہو جائے گا۔

تسخیر وحب کیلئے عجیب وغریب عمل

اگر چاہے کہ کسی کو اپنے عشق میں بے قرار کرے اس نقش
لکھے اوپر بارہ ٹکڑے روٹی گندم کے ہر پارچہ پر ایک ایک
فقرہ مندرجہ ذیل لکھے اور چت کبرے کتے کے آگے ڈال دے
کہ وہ کھا جاوے لیکن یہ خیال رہے کہ اگر مرد کے لئے یہ عمل کیا
جا رہا ہے تو نر کتے کو کھلائے اور اگر عورت کے لئے کیا جا رہا
ہے تو مادہ کو کھلائے۔ یہ عمل طلسم کی حیثیت رکھتا ہے۔ بارہا
تجربہ کیا جا چکا ہے۔ کبھی خطا نہیں کرتا۔ فقرے حسب ذیل ہیں۔

ع دو حولا دلو عولا هولا
قولا عط عط سداہ عاعط عمولا

میاں بیوی کی محبت کیلئے نایاب عمل

جو عورت اپنے شوہر کو اپنی محبت میں بیقرار کرنا چاہے اس

کے لئے اس نقش سے بہتر اور کوئی نقش نہیں ہو سکتا یہ نقش اس
باب میں اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ ہزارہا مرتبہ کا آزمودہ ہے طریقہ یہ
ہے کہ تو چندی اتوار کو اس نقش معظم کو زعفران سے سفید کاغذ پر
لکھوا کر عورت اپنے بازو پر باندھے۔ اس نقش معظم کی برکت
سے اس کا شوہر اس پر فریفتہ اور عاشق ہوگا۔
نقش معظم یہ ہے

۵	۲	۹	ع
و	ت	ع	ط
۵۲	ن	۲	۱
فلاں	فلاں	فلاں	فلاں

جن خانوں فلاں فلاں لکھا
ہوا ہے وہاں نام مطلوب
کا اور اس کی ماں کا اور
طالب اپنی ماں اور اپنا نام
لکھے۔

طلسم برائے محبت

دوستی اور محبت پیدا کرنے کے لئے مندرجہ ذیل فلیتہ نہایت
مجرب اور آزمودہ ہے فوراً اثر کرتا ہے فلیتہ پورے ہونے
سے پہلے دامن مراد گل مقصود سے پُر ہو جاتا ہے۔
چاہیئے کہ بعد نماز جمعہ محبوب کے پہنے ہوئے کپڑے میں سے
سات ٹکڑے حاصل کرے اور ان پر مندرجہ ذیل طلسم لکھ کر سات
فلیتے بنائے ہر ایک فلیتہ ایک دن جلایا کرے انشاء اللہ تعالیٰ
سات دن کے اندر مقصود حاصل ہوگا۔ محبوب چاہے کتنے ہی فاصلے
پر ہو افتاں وخیزاں اس کے پاس حاضر ہوگا۔ اور اس کی تابعداری

کرے گا۔

احتیاط رہے کہ چراغ ہر روز نیا ہو اور تیل چمیلی کا اس میں استعمال کیا جاوے۔ چراغ کا رخ خانۂ محبوب کی طرف ہو اور جبتک فلیتہ جلتا رہے طالب اس کے روبرو محبوب کا تصور باندھے بیٹھا رہے۔ وقت کی پابندی ضروری ہے یعنی جس وقت پہلے دن عمل کیا گیا ہے ساتوں دن اُسی وقت عمل کیا جاوے۔ انشاء اللہ تعالےٰ کامیابی ہوگی۔ طلسم یہ ہے۔

۹ عبو دہر عفو راہ حادہ منبع

سا ۹ سہ ھرر بنیا جمع دہ

فلاں بن فلاں بیقرار گردد

میاں بیوی کی محبت کیلئے لاجواب نقش

اگر کسی عورت کا شوہر اس کا ناراض ہو کر چلا گیا ہو یا اس سے لڑتا جھگڑتا ہو، مخالفت کافی بڑھ چکے ہیں اور وہ اس سے بے حد نفرت کرنے لگا ہو تو اس وقت چاہیئے کہ ایک پیپل کے پتے پر زعفران سے سیدھی طرف وہ اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ آخر تک لکھے اور دوسری طرف نقش ذیل تحریر کرکے نقش کے نیچے طالب اور مطلوب کے نام والدہ کے ناموں سمیت تحریر کردے۔ پھر اس پتے کو اس کنوئیں میں ڈال دے جس کا پانی مطلوب پیتا ہو۔ انشاء اللہ تعالےٰ فوراً کامیابی ہوگی اگر اتفاق سے مطلوب کہیں اور جگہ چلا گیا ہو تو فوراً واپس آجائے گا۔ نقش معظم اگلے صفحہ پر ہے۔

۲	۸	۱	۱۲
۳	۱۳	۲	۵
۶	۳	۶	۹
۷	۱۰	۵	۱۴

نوٹ: فلاں بن فلاں کی جگہ مطلوب کا اور اس کی ماں کا نام لکھے اور بعد میں طالب اپنا اور اپنی ماں کا نام لکھے۔

فلاں بن فلاں بمحبت فلاں بن فلاں گرفتار شود

طلسم برائے محبت

اگر کوئی شخص کسی کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پر آمادہ ہو چکا ہو اور بغیر اس کے وصال کے اس کا زندہ رہنا ناممکن ہو چکا ہو تو بشرط جائز کا اسے پابند کرکے حسب ذیل عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل تیر بہدف ثابت ہوگا۔ محبوب طالب کے قدموں پر جھک جائے گا۔ دنیا حیران رہ جائے گی لیکن جائز صورت اختیار کرنا پڑے گی۔ ورنہ نقصان کا اندیشہ ہوگا۔

گائے کے شانے کی ایک سالم ہڈی لائے اور اس پر سیاہی سے مندرجہ ذیل طلسم لکھے پھر اس شانے کو آگ میں ڈال دے بحکم خدا بہت جلد کامیابی ہوگی۔ طلسم معظم یہ ہے۔

۱ ۱۱ ۱۱۰ ۸ ۹ ۱۱۱ ۱۲ ۱۶

۴ ۶ ۱ ۱۴ ۱۴ ۱ ۱۷

فلاں بن فلاں بمحبت فلاں بن فلاں بیقرار گردد

نوٹ: فلاں بن فلاں کی جگہ نام طالب و مطلوب مع نام ماں کے

لکھیں پہلے نام مطلوب اور اس کی ماں کا ہوگا بعد میں نام طالب
اور اس کی ماں کا ہوگا۔

تسخیر قلب کا مجرب عمل

محبوب کو تسخیر کرنے کے لئے یہ انوکھا عمل بھی مجرب ہے اور
عجیب ہے اپنی جادو اثر تاثیرات کے کرشمے آناً فاناً دکھاتا ہے علاوہ ازیں
یہ عمل تسخیر حاکم ظالم کے لئے بھی بیحد پُر اثر ہے۔
(توچیندی) اتوار کو مندرجہ ذیل طلسم بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھ کر
جسے چاہتا ہو کہ اپنا مطیع و فرمانبردار بنائے اس کو اسی ہاتھ سے
سلام کرے۔ بمجرد اس فعل کے اسی وقت اس کا قلب اس کی طرف
رجوع ہونے لگے۔ چند بار کی ملاقات دوستی اور محبت کو اس قدر
بڑھا دے گی کہ بغیر طالب کے مطلوب کو قرار نہیں ہوگا۔ گویا بندہ
بے دام بن جائے گا۔ اکثر مرتبہ کا آزمودہ ہے۔ طلسم یہ ہے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ ۱۱ ۱۸ ۱۸ ۱۱ ۱۱ فلاں بن فلاں

نوٹ: فلاں بن فلاں کی جگہ نام مطلوب اور اس کی ماں کا لکھیں۔

تسخیر قلب کا ایک اور آسان عمل

اگر کہیں ایسا اتفاق ہو کہ طالب اور مطلوب دور دور ہوں یا کسی
کسی وجہ سے طالب کی رسائی نہ ہو اور طالب مطلوب کی محبت میں

وہ دیوانہ و پریشان ہو تو مندرجہ ذیل عمل اس کے لئے نہایت موثر
مفید ثابت ہوگا لیکن نیت جائز کی شرط نہایت ضروری ہے۔
ایک سیاہ مرغ کا انڈا حاصل کرے اور اوپر مندرجہ ذیل طلسم
زعفران سے لکھ کر چولھے کے نیچے گاڑ دے لیکن یہ خیال رہے کہ چولھے
میں ہر وقت آگ رہے مگر آگ کم زیادہ تیز نہ ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ
فوراً کامیابی ہوگی۔
یہ عمل اکثر مرتبہ کا کیا ہوا ہے۔ کبھی تین روز سے زیادہ وقت
صرف نہیں ہوتا محبوب بے قرار ہو کر چلا آتا ہے۔ چاہے کیسی ہی
سخت قید میں مقید ہو۔ طلسم یہ ہے۔

الساعۃ الساعۃ امو الہو الہو لطریق لطریق

فلاں بن فلاں بمحبت فلاں بن فلاں بیقرار گردد

نوٹ:۔ فلاں بن فلاں کی جگہ نام مطلوب و طالب مع ان کی ماں
ناموں کے لکھیں۔ پہلے نام مطلوب اور اس کی ماں کا لکھیں اور
میں نام طالب مع نام اس کی ماں کے لکھیں

تسخیر محبوب کیلئے مجرب عمل

محبوب کو مطیع کرنے کے لئے جب تمام دنیا کے عمل ناکام
ہو چکے ہوں اور کسی بھی عمل سے کامیابی نہ ہوتی ہو تو اس وقت ا
نادر و نایاب عمل سے کام لیا جائے۔ بحکم خداوند اندرون میعاد
گوہر مراد دامن امید سے پُر ہو جائے گا۔ طریقہ عمل حسب ذیل

عروج ماہ میں آبادی سے دور بالکل تنہا مقام میں اردگرد یہ ممکن نہ ہو
تو کوئی خالی مکان صرف اس کام کے لئے مخصوص کر لیا جائے۔ بعد نماز عشاء
مندرجہ ذیل عمل ایک سو ایک بار پڑھے اول و آخر درود شریف گیارہ
گیارہ مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ بروقت عمل تھوڑی سی شیرینی سے
منہ میٹھا کر لینا ضروری ہے۔ عمل کے دوران تصور محبوب بڑی مضبوطی
سے قائم رکھا جائے اور دل میں خیال ہو کہ محبوب ہاتھ باندھے میرے
روبرو کھڑا ہے

یہ عمل چالیس دن کا ہے لیکن اس کے لئے اتنا وقت کبھی نہیں
لگتا۔ اِن ایام معینہ کے درمیان میں ہی کامیابی ہو جاتی ہے۔ بیحد مؤثر
عمل ہے۔ بارہا کا آزمودہ ہے۔ عمل شریف یہ ہے۔

اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنِیْ مَحْبُوْبَ فِیْ قَلْبِیْ بِحَقِّ یَا اَبَدًا وُّ ح
اُبُدٌ وُّ حٌ یَا اُبُدٌّ وُّ ح ۔

نقش سورۃ اخلاص برائے محبت

سورۃ اخلاص کا نقش محبت و تسخیر کے لئے مشہور چیز ہے۔
عاملین نے اس کو مختلف شکلوں میں مرتب کر کے مختلف طریقوں سے
استعمال کیا جائے۔ تسخیر و حب کے لئے مانی ہوئی چیز ثابت ہوتا
ہے۔ ہم نے کاملین کے مختلف طریقوں میں سے تین طریقے منتخب
کے اکثر ان سے کام لیا ہے۔ اس کا ہر طریقہ پر استعمال میں مفید
و زود اثر ثابت ہوا وہی تینوں طریقے شائقین کے لئے ہم درج

کرتے ہیں۔ شائقین جس طرح چاہیں اس کا استعمال کریں۔ انشاء اللہ
یہ نقش بالکل بے خطا ثابت ہو گا۔ میاں بیوی کی باہمی محبت
کے لئے اکسیر حکم رکھتا ہے

قل	هو	الله	احد
الله	الصمد	لم	يلد
ولم	يو	لد	ولم
يكن	له	كفوا	احد

فلاں بن فلاں علی محبت فلاں بن فلاں۔

پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس نقش
کو سفید کاغذ پر زعفران سے
لکھ کر درخت انار سرسبز میں لٹکا
دیا جاتا ہے۔ ہوا کے اثر سے
جب یہ نقش حرکت کرتا ہے تو
مطلوب اس کے جادو بھرے اثر سے متاثر ہو کر بیقرار ہو جاتا ہے
اور طالب کے پاس دوڑتا چلا آتا ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفید کاغذ پر سیاہی سے لکھ کر صحرا میں
گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ اثرات اس طرح بھی فوراً مرتب
ہوتے ہیں۔ اور مطلوب بیقرار ہو جاتا ہے

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کاغذ پر سیاہی سے لکھ کر اس کا فلیتہ تیار
کیا جاتا ہے اور اس پر روئی لپیٹ کر روغن چنبیلی میں ایک چراغ
کے ذریعہ اس کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ چراغ کا رخ خانۂ محبوب
کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمل اکیس دن بلاناغہ کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ
دونوں طریقوں سے زیادہ موثر ہے۔ ان تینوں میں سے جس
کو عامل چاہے کر سکتا ہے۔

ـــ۔ـــ۔ـــ

تسخیر قلوب و ترقی مراتب کے لئے

جابر و ظالم، حکام، سنگ دل محبوب اور خوفناک دشمنوں کو مطیع و فرمانبردار بنانے کے لئے مندرجہ ذیل نقش نہایت معتبر اور … کی چیز ہے۔ بروقت ضرورت اس تعویذ کو ساعت سعید میں مشک و زعفران سے لکھ کر موم جامہ کر کے گلے میں ڈال لے یا بازو پر … جس شخص کے پاس یہ نقش ہو گا خلقت اس کی عزت کرے … جابر و ظالم حاکم مہربانی سے پیش آئے۔ اگر جائز محبت کے لئے سنگ دل محبوب کو اپنا تابعدار بنانا ہو وہ بندۂ بے دام ہو … اور اس کے تمام دشمن اس کے فرمانبردار تابعدار اور مطیع ہو جائیں۔ بیحد موثر اور بارہا کا مجرب نقش ہے

نوٹ فلاں بن فلاں کی جگہ مطلوب اور اس کی ماں کا نام لکھا جائے بعد میں طالب اپنا اور اپنی ماں کا نام لکھے نقش مجرب ہے:۔

۲۶	۳۹	۱۶
۱۷	۲۳	۲۷
۳۱	۴۹	۴۱
۲۵	۱۹	۳۰

تسخیر قلوب و مطیع محبوب کے …

آیات ذیل کو پوست ہرن پر شروع چاند میں بروز … اپنے پاس رکھنے سے خلائق کی توجہ اس کی طرف پیدا ہو جائے … عام مخلوقات اس کی عزت اطاعت اور فرمانبرداری کرے …

کسی جابر محبوب کو مطیع کرنے کی خواہش ہو تو اسی عمل کو کاغذ پر لکھ کر اور نیچے ان آیات کے محبوب اور اس کی ماں کا نام اور طالب اور اس کی ماں کا بھی نام لکھیں آیات یہ ہیں۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا ط وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ج كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ط
وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ط أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ط

تسخیر خلائق کیلئے معجز نما نقش

عام مخلوقات کے لئے مندرجہ ذیل نقش نہایت موثر اور آزمودہ ہے۔ اس نقش کے حامل کی ہیبت اور محبت خلائق کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دنیا اس کو عزیز سمجھتی ہے۔ اور ہر شخص اس کی اطاعت کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ منموہنی جادو ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ چاہئے کہ ان آیات کو بروز جمعہ ساعت سوم میں نگینہ سنگ لاجورد پر کھدوا کے اپنے پاس رکھے اس کی ہر حاجت روا ہوگی اور اس کی

محبت و رعب و دبدبہ لوگوں کے قلوب میں جگہ پڑے گا۔ آیات یہ ہیں۔

الاصباح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ط وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ط

میاں بیوی کی لڑائی دور کرنے کیلئے

اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہوں تو چاہیئے کہ مندرجہ ذیل آیہ کریمہ شرینی کے ایک ٹکڑے پر نئے قلم اور زعفران کی سیاہی سے عروج ماہ میں کسی سعید ساعت میں لکھ کر جو نفرت کرتا ہو اس کو کھلا دی جائے انشاء اللہ تعالیٰ صرف ایک بار کا عمل کامیاب ثابت ہو گا باہمی رنجش نفرت دور ہو کر محبت پیدا ہو جائے گی اور اگر دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں تو دونوں ایک ایک ٹکڑا شیرینی کا کھلانا چاہیے اگر شیرینی دستیاب نہ ہو تو انجیر یا خرمے پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے آیت مبارکہ یہ ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ط

تسخیر خلائق کے لئے

قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کو چینی کے ایک پاک ٹکڑے پر زعفران اور گلاب اور مشک سے لکھ کر عود اور عنبر کی دھونی دے کر سیدھے بازو پر باندھے اس کی برکت سے وہ شخص خلائق کی نظروں میں باعزت اور باوقار ہو گا۔ اور جس کی نظر اس پر پڑے گی اس کی تابعداری کے لئے مائل ہو گا مجرب ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے۔

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○ هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۔

تسخیر قلوب کیلئے ایک اور مجرب عمل

محبت اور تسخیر کے لئے خواہ ایک شخص کے لئے ہو یا جمیع خلائق کے لئے آیت ذیل نہایت مجرب ہے۔ چاہیئے کہ عروج ماہ میں تو جمعرات کو گذار کر شب جمعہ میں نیم شب گذر جانے پر اس آیت شریفہ کو [illegible] مرتبہ پڑھے آئندہ ہمیشہ اسی طرح پڑھتا رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تسخیر خلائق اور توجہات محبوب کے لئے اکسیر ہو گا۔ آیت شریفہ یہ ہے

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ط اَنْتَ يَا رَبِّ حَسْبِيْ عَلٰى فُلَانِ بْنِ فُلَانَةٍ اَعْطِنِيْ عَلَيَّ وَاَقْبِلْ

اگر کسی فرد واحد کے لئے پڑھے تو اس کا نام مع اس کی ماں کے نام کے لے۔

ترقی اعزاز و مراتب کیلئے

راج دربار میں عزت و مراتب کی افزونی کے خواہشمند اس آیہ کریمہ کو عروج ماہ میں ساعت مشتری میں نگینہ انگشتری پر کندہ کرا کے سیدھے ہاتھ میں پہن لیں یا پوست آہو پر زعفران سے لکھ کر سیدھے ہاتھ کے بازو پر باندھ لیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ راج دربار میں عزت ہوگی مرتبہ بلند اور اقبال زیادہ ہوگا۔ آیت مبارکہ یہ ہے

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّزَيَّنَّاهَا لِلنّٰظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ الرَّجِيمِ ط۔

ترقی مراتب کے لئے ایک اور عمل

چاہیئے کہ اس آیت مبارکہ کو زرد کاغذ پر زعفران و گلاب سے لکھے اور موم وزیرہ وکندر کی دھونی دے کر سیدھے ہاتھ کے بازو پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ ترقی مراتب کے لئے اکسیر صفت ثابت ہوگا۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ط إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ٥ وَّرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ط

روغن محبت

تسخیر محبوب کے لئے یہ روغن جادو صفت ہے چند بار منہ پر

[مل کر] اس کے روبرو جائیے وہ گرویدہ ہو جاوے گا۔ آپ کی اطاعت [کرے] گا اور آپ سے پھر کبھی جدا نہ ہوگا۔ اعتقاد شرط ہے۔

چاہیئے مندرجہ ذیل آیات کو چینی کے کسی پاک صاف برتن میں [زعفر]ان گلاب اور مشک کی سیاہی سے عروج ماہ میں ساعت مشتری [میں لک]ھے اور پھر ان حروف کو روغن چنبیلی سے دھو کر محفوظ رکھیں۔ [بوق]ت ضرورت تھوڑا سا تیل منہ پر مل کر محبوب کے روبرو جائیے۔ [مجرب] لا آزمودہ ہے۔

[طٰهٰ] مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَخْشٰى [تَنزِي]لًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ٥ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا [وَمَا] تَحْتَ الثَّرٰى ٥ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفٰى ٥ [اَللّٰهُ] لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى!

تسخیر خلائق کیلئے

مندرجہ ذیل عمل نہایت مجرب ہے اور سریع التاثیر ہے چاہیئے کہ [آی]ات مبارکہ کو عروج ماہ میں بروز جمعرات ساعت سعید میں نئے [کپڑے] پر توت کے پانی سے لکھ کر مرد اپنی پگڑی یا ٹوپی میں رکھے۔ اور [عور]ت اپنی چوٹی میں باندھے اس کی برکت سے عزیز خلائق ہو۔ [لوگ]وں کی نگاہ میں اس کی ہیبت ہو۔ راج دربار میں عزت ہو آیہ [یہ] ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلٰلَةٍ مِّن طِينٍ

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِیْ قَرَارٍ مَّکِیْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا
فَکَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ط ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ
فَتَبٰرَکَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِیْنَ ط

تسخیر کیلئے ایک اور اعلیٰ عمل

آیات قرآن پاک کو واسطے افزونی عزت وترقی جاہ ومرتبہ تسخیر خلائق کے لئے عروج ماہ میں مبارک دن اور ساعت میں ہرن کی کھال پر گلاب وزعفران ومشک سے لکھے اور اس کو پگڑی میں رکھے آدمیوں کے دل میں اس ہیبت اور عزت ہوگی۔ عزت واقبال میں ترقی ہوگی۔ مرتبہ اور منصب بڑھے گا۔ دولت کثیر سے مالامال ہوگا۔ آیات یہ ہیں۔

اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا ۝ لِّیَغْفِرَ لَکَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْۢبِکَ وَمَا تَاَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَیْکَ وَیَهْدِیَکَ
صِرَاطًا مُّسْتَقِیْمًا ۝ وَّیَنْصُرَکَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِیْزًا ۝ هُوَ
الَّذِیْٓ اَنْزَلَ السَّکِیْنَةَ فِیْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِیْنَ لِیَزْدَادُوْٓا
اِیْمَانًا مَّعَ اِیْمَانِهِمْ ط وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
وَکَانَ اللّٰهُ عَزِیْزًا حَکِیْمًا ط

جابر وظالم حاکم کو مہربان کرنے کیلئے

مندرجہ ذیل آیت مبارکہ کو پاک اور نئے کپڑے پر زعفران وگلاب سے عروج ماہ میں مبارک ساعت میں لکھ کر پہننے والے کپڑے میں رکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جابر وظالم حاکم اس پر مہربان ہوگا۔ عام آدمیوں کے دل میں اس کی عزت اور ہیبت ہوگی۔ اگر کے پاس جاوے تو بادشاہ اس کو اپنے پاس بٹھاوے اور عزت کرے آیت مبارکہ یہ ہے۔ لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ اِلٰی قَوْلِهٖ النَّجْدَیْنِ ط

تسخیر عالم کے لئے بیحد مجرب عمل

تسخیر عالم کے لئے تسخیر بادشاہ اور وزیر کے لئے تسخیر محبوب یہ عمل مبارک بیحد مجرب اور نہایت سریع التاثیر ہے چاہئے کہ آیات ذیل کو عروج ماہ میں سات مرتبہ روغن چنبیلی پڑھ کر دم کرے اور سات بعد نماز چاشت ان ہی آیات مبارکہ کو ہر روز اکتالیس بار پڑھ کر اس پر دم کرے اس کے بعد اپنے کام میں لائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مقصود حاصل ہوگا۔ ترکیب استعمال یہ ہے کہ اس روغن کو اپنے دونوں رخسار اور ابروؤں پر ملے۔ بادشاہ اور حکام کے روبرو جائے اس کی بڑی ان کے دلوں میں اس کی عزت ہوگی۔ تسخیر محبوب کیلئے بھی ایسا ہی کرنا چاہئے آیات یہ ہیں

یَآ اَیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰکَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِیْرًا وَّدَاعِیًا

اللہ باذنہ وسراجا منیرا ○ وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا
کبیرا ○ ولا تطع الکفرین والمنفقین ودع اذٰھم وتوکل علی اللہ
وکفی باللہ وکیلا ط ۔

تسخیر خلائق کے لئے ایک اور مبارک عمل

چاہئے کہ عروج ماہ میں بروز جمعہ ساعت مبارک میں غسل کر کے اس مبارک کو جامہ حریر پر اور اگر وہ دستیاب نہ ہو تو پھر کسی دوسرے کپڑے پر جو غیر استعمال بالکل نیا ہو زعفران وگلاب سے لکھے اور اس کو اپنے استعمالی کپڑے میں سی لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل سے عجیب وغریب مشاہدات ظہور میں آئیں گے جو کوئی اس کو دیکھے گا اس کے دل میں اس کی عزت ہوگی اور محبت پیدا ہوگی۔ اس کی فرمانبرداری اور اطاعت قبول کرے گا۔ بحد سریع التاثیر اور مجرب ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے

یریدون لیطفؤا نور اللہ بافواھھم واللہ متم
نورہ ولو کرہ الکفرون ○ الی قولہ نصر من اللہ وفتح
قریب ط

حصول مرتبہ وعزت کیلئے

چاہئے کہ آیت ذیل کو عروج ماہ میں بروز پنجشنبہ ساعت دوم میں لکھے اور زیر نگینہ انگشتری رکھوا کر سیدھے ہاتھ میں پہنے گا انشاء اللہ

اس کی برکت سے مراتب جلیلہ پر فائز ہوگا۔ لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت ہوگی اور تمام مخلوق اس کی دوستی اور محبت کا دم بھرے گی۔ آیت مبارکہ یہ ہے۔

الم ○ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم ○ الی قولہ
وانزل الفرقان ط ۔

تسخیر و محبت کیلئے مجرب کاجل

تسخیر امراء و حکام و سلاطین کے لئے یہ تسخیری کاجل مجرب نما ہے۔ چاہیے کہ عروج ماہ بروز پنجشنبہ ان آیات مبارک کو چینی کے برتن میں گلاب وزعفران سے لکھے اور ان حروف کو شہد سے دھوئے پھر اس میں سرمہ اصفہانی کو ملائے کاجل تیار ہو جائے گا اس کاجل کو آنکھ میں لگا کر جس کے سامنے جائے گا وہ اس کی عزت کرے گا اور اس کی حاجت براری میں کوئی حیل حجت نہیں کرے گا۔ تسخیر محبوب کے لئے بھی یہ کاجل اکسیر صفت ہے۔ آیات مبارکہ یہ ہیں۔

وکذالک نری ابراھیم ملکوت السموت والارض و
لیکون من الموقنین ○ فلما جن علیہ الیل را کوکبا قال لا
احب الافلین ○ فلما را القمر بازغا قال ھذا ربی فلما
قال لئن لم یھدنی ربی لاکونن من القوم الضالین فلما
را الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال
یقوم انی بری مما تشرکون ○

میاں بیوی کی محبت کے لئے اکسیری عمل

درمیان میاں بیوی کے اگر ناراضگی ہو ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہو تو چاہئے کہ اس آیت مبارکہ کو کاغذ یا برگ درخت پر یوں لکھے کہ نام عورت و مادر عورت کا اوپر اور نام مرد کا اوپر عورت کے نام کے لکھے اور زیر درخت میوہ دار کے گاڑ دیوے یا نفرت چاہے کیسی ہی ہو انشاء اللہ جلد دور ہو جائے گی۔ اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ یہ ہے

إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ط

ایضاً

اگر میاں بیوی کی باہمی رنجش نفرت بغض کی حد تک پہنچ چکی ہو اور اندیشہ ہو کہ علیحدگی کی صورت نہ اختیار کرے تو چاہئے کہ اس عمل مبارک کو کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ فوراً کامیابی ہوگی طریقہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو سات مرتبہ شیرینی پر پڑھے اور بعد ہر مرتبہ کے کہے اَلِّفَتِ الْمَحَبَّةَ بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ اور زوجین کو کھلاوے۔ بغض ان کے دل سے جاتا رہے گا اور محبت پیدا ہوگی۔ آیت مبارکہ یہ ہے

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ

ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ط

ایضاً

میاں بیوی کی محبت کے لئے مندرجہ ذیل عمل نہایت مجرب ہے کہ اس آیت مبارکہ کو پانی پر یا شیرینی پر سات مرتبہ دم کر کے دونوں کو کھلا دیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ محبت بسیار ہوگی۔ اور بغض و عداوت دور رہے گی۔ آیت مبارکہ یہ ہے۔

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ط

ایضاً

میاں بیوی کی رنجش بیجا کو دور کرنے اور باہمی محبت کو زیادہ کرنے کے لئے مندرجہ ذیل عمل نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اکثر مرتبہ آزمودہ عمل ہے کبھی خطا نہیں کرتا۔ چاہئے کہ اس آیت کریمہ کو عروج ماہ میں بروز جمعہ بساعت سعید درخت میوہ دار خت میوہ دار کے پتے پر مع نام میاں بیوی کے لکھے اور ہر گوشہ مکان میں مدفون کرے مرد اور عورت کے باہمی افزونی ہو اور بغض و نفاق دور ہو جاتے ہیں۔ آیات یہ ہیں

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۙ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ط وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ط فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ط كَذَٰلِكَ

لکم لعلکم تھتدون ط والذی خلق الازواج کلھا وجعل
لکم من الفلک والانعام ما ترکبون ط لتستووا علی ظھورہ
ثم تذکروا نعمۃ ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان
الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین ط وانا الی
ربنا لمنقلبون ط

تسخیر خلائق اور ترقی مرتبہ کے لئے

اس دعا کو روز شنبہ غرہ ماہ میں دوسرے سے لکھوا کر بازو
پر باندھے بجا مجرب ہے۔ دعا معظم یہ ہے۔
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ط ادخلوا علیھم الباب
فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم
مؤمنین ط وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون لطاھا وطل ۵ ع ملد ۱۵
طات لسع لہ جیم آہ صاع ھا ۷ ۷ ہ الا د ع ادخلوھا
بسلام امنین ط ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ط
وصلی اللہ علی سیدنا محمد و الہ الطاھرین ط

تسخیر محبوب کے لئے ایک جادو صفت عمل

مرد و عورت کی جائز دوستی کے لئے ذیل کا عمل جادو صفت ہے
چاہئے کہ موم خالص سے دو صورتیں بنائیں ایک مرد کی اور ایک عورت کی

بعد ازاں سینہ مرد پر نام عورت کا اور سینہ عورت پر نام مرد کا سوئی
سے نقش کرے پھر مندرجہ ذیل آیت مبارکہ کو ہرن کی کھال پر سیاہی
سے لکھ کر درمیان دونوں مجسموں کے رکھے اور دونوں مجسموں کو
روبرو ایک دوسرے کے رکھ کر زیر درخت میوہ دار دفن کرے۔
طالب و مطلوب میں بے حد محبت ہو گی۔ آیت یہ ہے۔
ثم قست قلوبھم من بعد ذلک فھی کالحجارۃ
او اشد قسوۃ ط وان من الحجارۃ لما یشقق فیخرج
منہ الماء وان منھا لما یھبط من خشیۃ اللہ ط وما اللہ
بغافل عما تعملون ط

تسخیر خلائق کا نایاب عمل!

یہ عمل مبارک سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے اور اپنی
تاثیرات میں نہایت اعلیٰ اور اکسیر ہے۔ بارہا اس عمل مبارک کو سینکڑوں
اشخاص نے آزمایا ہے بالکل بے خطا ثابت ہوتا ہے۔ ضرورتمند
اس سے فائدہ اٹھائیں

چاہئے کہ ماہ شعبان المعظم میں تیرھویں چودھویں پندرھویں کو
روزہ رکھے۔ سرکہ و سبزی و نان جو سے افطار کرے اور قبلہ رو بیٹھ کر
لا الٰہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لکھے اور درود شریف
پڑھے حضرت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبتک کہ نماز عشاء پڑھے
اور بعد نماز عشاء ادا کرے... کہ سبحان اللہ و سبوح و قدوس

...قدر چاہیے کہ بعد ازاں ان آیاتِ مبارکہ کو کاغذ پر زعفران سے
...ے اور سرہانے رکھ کے سو رہے۔ وقت صبح اس مکتوب کو اپنے پاس
...ے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام لوگ اس کے مطیع و فرمانبردار
...ں گے ہر شخص اس کی عزت کرے گا۔ دشمن بھی دوست ہو جائیں گے
...یتِ مبارکہ یہ ہیں

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ
اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ
الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ
الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

تسخیر خلائق کیلئے چہل کاف کا عمل

جو جمعہ مہینہ میں پہلے آوے اس میں عمل کرنے اور بعد غسل کے دوگانہ نفل کا ادا کرے بعد اس کے گیارہ گیارہ بار اول و آخر درود شریف پڑھے اور ایک ہزار ایک بار ایک جلسہ میں یہ دعا پڑھے مگر ایک ہزار ایک بار ایک جلسہ میں چالیس روز تک اسی طرح یعنی ایک چلہ اسی طرح کرے لیکن اول میں جب شروع کرے شب جمعہ کی ہو۔ چالیس روز تک اسی طرح غسل کرے اور بطور ترکیب مذکورہ کے پڑھا جاوے۔ وہ یہ ہے۔

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةٌ كِفْكَافُهَا كَكَمِيْنٍ كَانَ
مِنْ كَلَكٍ تَكُرُّ كَرًّا كَكَرِّ الْكَرِّ فِيْ كَبَدٍ
تَحْكِيْ مُشَكْشَكَةً كَلُكْلُكٍ لَكَ كَفَاكَ مَا بِيْ
كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتَهُ يَا كَوْكَبًا كَانَ
تَحْكِيْ كَوْكَبَ الْفَلَكِ

بعد ایک چلہ کے اکتالیس بار روزانہ بعد نماز مغرب یا عشا یا ... کے اگر تنہا نہ ہو سکے تو سات بار یا گیارہ بار ضرور پڑھ لیا کرے ... خلائق کے لئے بہت مجرب ہے۔

تسخیر خلائق کیلئے آسان دعا

حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول ہے جو کوئی اس دعا کو اپنے عمامے یا ٹوپی میں رکھ کر رکھے نزد حکام و خلائق میں عزیز و مکرم و محترم ہو۔ اور شر اعداء اور سلطانِ جابر اور تمام بلیات سے محفوظ رہے وہ یہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا هُوَ يَا مَنْ
هُوَ يَا مَنْ لَيْسَ هُوَ اِلَّا هُوَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ
يَا مَنْ لَا يَمُوْتُ يَا حَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ صَلِّ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَّكُنْ لِّيْ حِرْزًا حَصِيْنًا وَّحِصْنًا مَّنِيْعًا
يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ

بلندیٔ مراتب کیلئے دعائے معظم

اِن حروف کو ساعت سعید میں سفید کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا عزیز خلائق ہوتا ہے اور اس کے مراتب میں ترقی و بلندی ہوتی ہے۔۔ بیحد مجرب ہے۔

حھبا کلھلی سحمن ۷۸۷ اللّٰھُمَّ اَنْتَ حَسْبُنَا اللّٰہُ وَکَفٰی سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ دَعَا لَیْسَ وَرَاءَ اللّٰہِ مُنْتَھَا بِہٖ

دُعائے بزرگوار بلندی مراتب کے لئے

کتب معتبرہ میں منقول ہے کہ اس دعا کو بعد نماز عصر روز جمعہ جو کوئی پڑھے حق سبحانہٗ وتعالےٰ اس کے نامۂ اعمال میں سو ہزار گناہ محو کرے اور سو ہزار حاجت بر لائے اور سو ہزار درجے اس کے بلند کرے۔ دعا یہ ہے

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدِ نِ الْاَوْصِیَاءِ الْمُؤْمِنِیْنَ بِاَفْضَلِ صَلٰوتِکَ وَبَارِکْ عَلَیْھِمْ بِاَفْضَلِ بَرَکَاتِکَ وَ عَلَیْھِمُ السَّلَامُ وَعَلٰی اَرْوَاحِھِمْ وَاَجْسَادِھِمْ وَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ

۔۔۔۔۔۔

حب کے لئے مجرب تعویذ

جانو محبت کے لئے مندرجہ ذیل تعویذ اکسیر ثابت ہوتا ہے چاہیئے کہ مندرجہ ذیل ان دونوں تعویذوں کو عروج ماہ میں بساعت زہرہ چینی کے پیالے میں زعفران وگلاب سے لکھے اور اس میں چائے وشربت محبوب کو پلائے۔ انشاء اللہ ایک مرتبہ کا عمل کافی ہوگا۔ تعویذات یہ ہیں۔

ے	ط	۴
ج	ھ	ن
ح	۲	د

۱۷۱	۱۸۱	۸	S
ے	۲۱	۷	۴۲
۲۲	ی	۱۲۹	۱۹۹
م		۲۳	۹

محبت کیلئے ایک اور مجرب المجرب تعویذ

تسخیر محبوب کے لئے مندرجہ ذیل بیحد مجرب اور آزمودہ ہے فوراً اثر کرتا ہے۔ محبوب بیقرار ہو کر مطیع وفرمانبردار ہو جاتا ہے چاہیئے کہ عروج ماہ میں بروز اتوار طلوع آفتاب سے پہلے سفید کاغذ پر سیاہی سے لکھ کر کسی قبر میں دفن کردے

تعویذ یہ ہے

یا تحلنا یا طلوغ ما ما عجرما عجاما
معبوا الی یا لہا ناا ھیاس اھیا اوصا
ون الہ شل ای ای مبین ابلیس
ملبسلین الحلاہ الحرا الحلا العجل
العجل العجل الوحا الوحا الوحا الحب
فلان بن فلان
(فلاں بن فلاں کی جگہ محبوب اور اس کی ماں کا نام لکھے)

طلسم محبت

تسخیر محبوب کے لئے یہ طلسم بھی نہایت مجرب ہے۔ چاہئے کہ عروج ماہ میں سفید کاغذ پر سیاہی سے اس طلسم کو لکھے تین فلیتہ تیار کرے اور روزانہ ایک فلیتہ روغن چنبیلی میں بوقت شب جلایا کرے انشاء اللہ تین روز میں محبوب بیقرار ہو کر افتاں وخیزاں آئے گا جائز استعمال کرنا چاہئے۔ طلسم یہ ہے۔

ا ا ۹ ا ع و ا ا عجز ع ا ا ا ا ا ا ———— فلاں بن فلاں بیقرار شود

بیقراری محبوب کیلئے ایک لاثانی عمل

اگر کوئی شخص اپنے عشق میں کسی کو مبتلا کرنا چاہے تو چاہئے کہ محبوب

کے داہنے پاؤں کی مٹی لا کر اس پر سات بار مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر دم کرے اور اس دم شدہ خاک کو اتوار کے روز آگ میں ڈالے مجرب و آزمودہ ہے

اَللّٰھُمَّ یَا رَبَّ جِبْرَائِیْلَ وَاِسْرَافِیْلَ وَمِیْکَائِیْلَ وَحَمَلَۃِ الْعَرْشِ وَالْکُرْسِیِّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَلَوْ یَرَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّۃَ لِلّٰہِ جَمِیْعًا وَّاَنَّ اللّٰہَ شَدِیْدُ الْعَذَابِ ۔ فلاں بن فلاں علی حب

بیقراری محبوب کیلئے ایک اور مجرب عمل

محبت کے لئے محبوب کے پہنے ہوئے کپڑے پر اس تعویذ کو سیاہی سے لکھ کر بطور فلیتہ تیار کرے اور رات کو نئے چراغ میں چنبیلی کا تیل ڈال کر روشن کرے۔ چراغ کا رُخ خانہ محبوب کی طرف رکھے انشاء اللہ تعالیٰ تین روز کا عمل تیر بہدف ثابت ہو گا۔

۱۹ و ا ا سم ا ۵ لا حا ما ۵ ۵ غ ع و دک ام باجا
ع غ دو ص ص ا ا ا خ ا ا ع ا س ح د ا م اب
د ر ر د خ ا ا ا عات ۶ ۶

بیقراری محبوب کیلئے ایک اور مجرب عمل

جب کہ محبوب پر کوئی عمل کارگر نہیں رہا ہو اس وقت یہ فلیتہ

تیار کرکے قدرت خدا کا کرشمہ دیکھئے اس تعویذ کو سفید کاغذ پر (لکھ کر) اور صاف روئی اوپر سے لپیٹ کر فلیتہ تیار کیجئے رات ایک وقت معین کر کے نئے سکورے میں روغن تلخ ڈال کر اس فلیتہ کو روشن کر دیجئے اور اس کا رخ خانہ مطلوب کی جانب کر دیجئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ فوراً اثر ہوگا۔

اس عمل شریف کو نہایت شدید ضرورت کے وقت کام میں لایا جائے۔ کیونکہ یہ نقش نہایت پُراثر اور مجرب و آزمودہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ جائز ضرورت کے وقت اس کا استعمال کیا جائے ورنہ بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس شرط کو مقدم تصور کیا جائے۔ نقش یہ ہے۔

ع ع ی	لاک ماطونھے	
ق ح	ک ی	د و
وحسن	نماء لذری	محیا نظر ر
نوح	نعمت ابدی هوی	سعد اللہ ابن ع
	علی محمد و اور تاذہ	لی العجل العجل خیر العجل
حلکائیل	سی حسن	حیدر
اعلی	یا علی	یا علی

تسخیر محبوب کیلئے عطر محبت

یہ دم شدہ عطر محبوب کو قبضہ میں لانے کے لئے بیحد مؤثر چیز ہے

اکثر مرتبہ کا آزمودہ ہے۔ عروج ماہ میں کسی مبارک تاریخ اور اچھی ساعت میں مندرجہ ذیل کلمات کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر عطر پر دم کر دیجئے اور اس عطر کو محبوب تک پہونچا دیجئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کو سونگھتے ہی آپ کی محبت میں گرفتار ہوگا۔ کلمات یہ ہیں۔

یا حَکِیْمُ ذَا لَا یَعَادُ لَهٗ شَیْئٌ مِنْ خَلْقِهٖ حب فلاں بن فلاں

فلاں بن فلاں کی جگہ مطلوب کا اور اس کی ماں کا نام لیا جائے۔

محبت کا تعویذ

مندرجہ ذیل اسم کو انار کے پھول پر سات مرتبہ پڑھ کر عورت کو دیجئے۔ سونگھتے ہی آپ کے عشق میں دیوانی ہوجائیگی اسم یہ ہے

جلد جلد جلد کاملۃ یا البیت سواھا

تسخیر محبوب کیلئے معتبر عمل

مندرجہ ذیل آیات قرآن پاک کو گیارہ مرتبہ پان پر دم کر کے کھلا دے عشق و محبت میں گرفتار ہو۔ مجرب ہے۔ آیات یہ ہیں

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

تسخیر محبوب کیلئے ایک طلسم

اگر کسی کو اپنے عشق میں دیوانہ کرنا چاہے تو مندرجہ ذیل ط[لسم لکھ]
کر فلیتے تیار کرے اور ہر روز ایک فلیتہ سات دن تک جلا[ئے]
یہ عمل عروج ماہ میں شروع کیا جائے مجرب ہے

فلیتہ روز اول	۱۱ ۱۱ ۱۱ے ۱۱ط ۸ے ۱۱ ۱۱ ۱۱
فلیتہ روز دوم	۱۱ سے ط ۱۱۱ ۱۱ے ۱۱و ۱۱ے ط ۹ ۱۸ ۱۱۱
فلیتہ روز سوم	ع ۱۱ ط ۱ے ۱۱۱ ط ۱ ط ۱۱ ۱۱ ط ۹ ۱۱۱ ط
فلیتہ روز چہارم	۱۶ ط ۱۱ ۱۱۱ ط ۲۱ ط ۱۷
فلیتہ روز پنجم	۱۸ ۱۱ ہ ۱۱ طل ۱۱ طِ ص 6
فلیتہ روز ششم	۱ ط ۱۱۱ ۱۱۳ ۱۱طل ط ۱۱۱ط ۱۱۱
فلیتہ روز ہفتم	۱۱ ع و ۱ک ۱۱۱ ہ ال ۹ و ۱۱ وو ۵۳

تسخیر محبوب کیلئے ایک اور طلسم

محبوب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے یہ نقش آفتاب نکلتے
اپنے ہاتھ پر لکھ کر اس کو سلام کرے طلسم یہ ہے۔

۱۱ ۱۱ ۱۵ ۱۱ ۱۱ ۲۱ ۸۱ ۱۸ ۱۷ ۱۱ اوک

اوص و ۱۱ ۸ ۱۱ وہ

فلاں بن فلاں الساعۃ الساعۃ الساعۃ

تسخیر محبوب کا آزمودہ عمل

محبت کے بارے میں یہ تعویذ جادو اثر رکھتا ہے۔ فوراً اپنا
کرشمہ دکھاتا ہے۔ محبوب کتنا ہی دور دراز ہو اس کے اثرات سے متاثر
ہو کر فوراً چلا آتا ہے اور پھر کبھی جدا نہیں ہوتا چاہئے کہ ان اسمار کو
درمیان مغرب وعشاء کے لکھے اور اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھ کے
گھر میں دفن کرے۔ اسمار یہ ہے۔

۱۹ ۹ ۱۱ ۱۱ ۱۱ الکھا و یا مرید ۲ حبعلھا ما الا خذ
حتی تاتی فلانہ بنت فلانۃ الیٰ فلاں بنت فلانۃ
ونفخ فی الصور فصعق مَن فی السمٰوٰتِ وَمَنْ
فی الارض الا ما شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری
فاذا ھم قیامٌ ینظرون. عجل اللہ الوحا للہ
الطور انھم سابقون۔

تسخیر محبوب کے لئے ایک افسون

اس افسون کو پھول یا عطر پر سات مرتبہ پڑھ کر محبوبہ کو
سنگھا دے افسون یہ ہے۔
پھول نبسے پھول بلبسے پھول من نارسنگھ لبسے جو لے پھول
کی باس سو چل آوے میرے پاس خصوصاً فلاں بنت فلاں
گروکی سکت میری بھگت پھر و منتر ایسر مہادیو کی بابا باجاپئے

کنپٹی تڑک پڑے۔

تسخیر محبوب کیلئے ایک بہت ہی مجرب عمل

جائز محبت کے لئے یہ عمل اکسیر کا کام دے گا اگر خدانخواستہ ناجائز طور پر اس کا استعمال کیا گیا تو بجائے نفع کے نقصان پہونچ جانیکا احتمال ہے۔ احتیاط شرط ہے

عروج میں سات سو چھیاسی مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط پڑھ کر دم کرے اور اس پانی کو محبوب کو پلا وے پیتے ہی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور بغیر طالب کے اُسے قرار نہیں آئے گا۔ بیحد مجرب ہے۔

میاں بیوی کی محبت کیلئے

درمیان میاں بیوی کے اگر نفرت ہو یا لڑائی ہوئی ہو اور دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں تو اس عمل کو کرکے قدرتِ خدا کا تماشہ دیکھیے تمام رنجشیں درمیان سے دور ہو جائینگی اور دونوں ایک دوسرے پر شیدا اور فریفتہ ہو جائیں گے زندگی بھر باہمی جدائی نہ ہوگی اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوگا تالیف قلوب کے لئے یہ عمل نہایت مجربہ اور آزمودہ ہے۔ چاہیئے کہ مندرجہ ذیل عمل کے ایک سفید کاغذ پر زعفران و

گلاب سے لکھ کر تعویذ بنائیں اور اس کو ایک تکیہ کے اندر سی دیں پھر اس تکیہ کو دونوں میاں بیوی سر کے نیچے رکھ کر سویا کریں عمل مبارک یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط اِبْرَاهِیْمُ خَلِیْلُ اللّٰهِ مُوْسٰی کَلِیْمُ اللّٰهِ عِیْسٰی رُوْحُ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ حَبِیْبُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاَیْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُوْنَ ط اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِیْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا وَاَلْقَیْتُ فُلَانَ بْنَ فُلَانَةٍ صَالِحًا دَائِمًا فُلَانَ بِنْتَ فُلَانَةٍ عَلٰی مَحَبَّةِ فُلَانٍ کَمَا اَلَّفْتَ بَیْنَ وَبَیْنَ اٰدَمَ وَحَوَّا بَیْنَ یُوْسُفَ وَزُلَیْخَا وَبَیْنَ مُوْسٰی وَبَیْنَ مُحَمَّدٍ وَخَدِیْجَةَ وَبَیْنَ عَلِیٍّ فَاطِمَةِ الزَّهْرَاءِ وَاَصْلِحْ بَیْنَهُمَا اِصْلَاحًا لَا فَسَادَ فِیْهِ اَبَدًا صُلْحًا صَالِحًا۔

نمازِ محبت

افزونیٔ محبت اور تسخیر قلب کے لئے چاہیئے کہ دو رکعت نماز پڑھے۔ اس طرح کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سات مرتبہ مندرجہ ذیل آیت پڑھے۔ آیت یہ ہے۔

عَسَی اللّٰهُ اَنْ یَّجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الَّذِیْنَ عَادَیْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَاللّٰهُ قَدِیْرٌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ط

بعد سلام کے سات بار یہ پڑھے اَللّٰهُمَّ لَیِّنْ قَلْبَ فُلَاں لِفُلَاں کَمَا لَیَّنْتَ الْحَدِیْدَ لِدَاؤُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ۔

یہ نماز سات دن حد اکیس دن تک پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مقصد حاصل ہوگا۔

تسخیر محبوب کیلئے ایک لاجواب عمل

جائز محبت میں محبوب کو اپنا والہ و شیدا بنانے کے لئے نہایت بہترین عمل ہے اکثر مرتبہ کا مجرب ہے۔

چاہیئے کہ مندرجہ ذیل سات چیزوں کو لائے اور ان پر جدا جدا ورد قرآن پاک دم کرکے سب کو ایک جگہ کر کے محبوب کو کھلاوے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کھاتے ہی عاشق و فریفتہ ہو جائے گا۔

(۱) قند۔ سورہ فاتحہ اکتالیس بار دم کرے (۲) مصری سورہ انا اعطینٰک اکتالیس بار دم کرے۔ (۳) بادام۔ اذا زلزلت الارض اکتالیس بار دم کرے (۴) نارجیل۔ سورہ لایلاف اکتالیس بار سورہ اخلاص دم کرے (۵) شہد اکتالیس بار دم کرے

(۶) خرما۔ سورہ والتین اکتالیس بار دم کرے

(۷) کشمش۔ سورہ الم نشرح ۷ اکتالیس دم کرے

پھر ان سب چیزوں کو ایک جگہ کرے اور محبوب کو کھلا دے انشاء اللہ تعالیٰ فوراً مقصد حاصل ہوگا۔

محبت کیلئے مجرب عمل

اپنے ہاتھوں کے ناخن تراشے اور ان کو جلا کر خاکستر کرے پھر

اس خاکستر پر مندرجہ ذیل کلمات سنہ بار پڑھ کر دم کرے محبوب کو جس طرح بن پڑے کھلاوے وہ کھاتے ہی فریفتہ ہو جائے گا۔ کلمات یہ ہیں

اِنَّہٗ مِنۡ سُلَیۡمٰنَ وَاِنَّہٗ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ اَلَّا تَعۡلُوۡا عَلَیَّ وَاۡتُوۡنِیۡ مُسۡلِمِیۡنَ ؕ

محبت کیلئے ایک آسان عمل

مندرجہ ذیل آیت شریفہ کو ایک ہزار مرتبہ روغن چنبیلی پر دم کرکے اپنے سر میں ڈالے اور بدن اور منہ پر مل کر کے محبوب کے پاس جائے وہ دیکھتے ہی فریفتہ ہوگا۔ آیت یہ ہے۔

وَاللّٰہُ الۡمُسۡتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوۡنَ ؕ

حاضری محبوب کیلئے ایک عمل

عروج ماہ میں شب کے وقت تنہا مکان میں کلمات ذیل معشوق کے مکان کی طرف منہ کرکے ایک ہزار مرتبہ روز پڑھا کرے انیس روز کے اندر انشاء اللہ تعالیٰ افتاں و خیزاں بیقرار ہو کر محبوب حاضر ہوگا۔ بیحد مجرب ہے۔ کلمات یہ ہیں۔

یَا عَطُوۡفُ وَلَعُوۡفُ الۡسَانِ اَعۡطِفۡ عَلٰی قَلۡبِ فُلَانِ ابۡنِ فُلَانٍ عَلٰی حُبِّ فُلَانِ ابۡنِ فُلَانٍ بِرَحۡمَتِکَ یَا اَرۡحَمَ الرّٰحِمِیۡنَ ۔

حاضری محبوب کیلئے ایک نادر عمل

عروج ادبیں شب کے وقت ایک مقام اور ایک وقت مقرر کر کے اس میں تنہائی میں بیٹھ کر مندرجہ ذیل آیت شریفہ گیارہ سو مرتبہ پڑھیں۔ پڑھتے وقت منہ طرف خانہ محبوب کے ہو اور تصور ہو کہ محبوب ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑا ہے انشاء اللہ تعالے بعد چالیس روز محبوب حاضر ہوگا مجرب ہے آیت شریف یہ ہے

یُحِبُّوْنَھُمْ کَحُبِّ اللّٰہِ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰہِ بِحَقِّ فلاں بنت فلاں علی حب فلاں بنت فلاں

دست غیب کیلئے نہایت سریع الاثر عمل

عروج ماہ کی تو چندی جمعرات کو غسل کر کے پاکیزہ کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر بعد نماز مغرب باشرائط طریقہ عمل پابندی وقت و مقام چالیس دن تک اول و آخر پانچ پانچ مرتبہ درود شریف اور درمیان درود شریف کے سات سو ستاسی مرتبہ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھیں۔ چلہ ختم ہونے کے بعد دست غیب شروع ہو جائے گی لیکن پہلے چلے میں وقت مقررہ اور مقام معینہ کی قید ہے یعنی بعد از نماز مغرب جس وقت عمل شروع کیا جائے ہر روز اسی وقت عمل شروع کرنا چاہئے جس گوشہ تنہائی میں اول روز بیٹھ کر پڑھا ہے چالیس روز تک وہیں بیٹھ کر عمل شروع کیا جائے

پڑھا کریں۔ کسی دن ترک نہ کریں مگر جگہ کی پابندی لازم نہیں۔ جہاں چاہیں پڑھیں جو دست غیب ہو اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔

دست غیب کس مقدار میں ہوگی اس کا علام الغیوب کو ہے۔ بظاہر اتنا ضرور ہوگا کہ تمام ضروریات ہر طرح دفع رہیں گی اور ایسی جگہ سے کام بنتا رہے گا جس کا علم اور گمان تک نہ ہوگا۔

دست غیب کے لئے ایک اور مجرب عمل

ایام بیض میں روزہ رکھ کر صبح و شام ایک ایک بار دعائے سیفی پڑھیں اور آدھی رات کو اٹھ کر دو رکعت نماز اس طریقہ سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد گیارہ بار سورہ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد تین بار دعائے سیفی پڑھیں اور ایک اشرفی اپنے سامنے رکھیں اور اکتالیس بار آیۃ الملک پڑھ کر اشرفی پر دم کریں اور شش جہت میں بھی دم کریں۔ پھر اشرفی سرہانے رکھ دیں۔ تین شب متواتر یہ عمل کرتے رہیں۔ چوتھی شب کو غیب سے دوسری اشرفی اس اشرفی کے پاس آجائیگی۔ اس کو خرچ میں لائیں اور آئندہ ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھیں یعنی ہر شب وظیفہ کے طور پر دعائے سیفی ایک بار اور آیت مذکور اکتالیس بار پڑھتے رہیں تاکہ عمل کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہے نہایت مجرب اور آزمودہ ہے۔

نقش اسم ذات یعنی اَللّٰہ کی پوری زکواۃ تو ایک لاکھ پچیس ہزار
کی تعداد پوری کرنے سے ہوتی ہے لیکن ایک ہزار نقش لکھنے کے بعد
دست غیب شروع ہو جاتا ہے۔ طریقہ عمل یہ ہے کہ اسم ذات کو
شب کے وقت بعد نماز عشاء بارہ ہزار مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر
دس دس بار پڑھنا ضروری ہے نیز نقش اسم ذات لکھتے وقت بھی
دس دس مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنے کا خیال رکھیں۔
نقش اسم ذات کو آٹے گندم میں گولی بنا کر دریا میں ڈالیں۔ جب
پوری ہو چکیں تو آئندہ ہمیشہ چھیاسٹھ نقش روزانہ لکھا کریں۔
نقش اسم ذات یہ ہے۔

۱۶	۱۹	۲۲	۹
۲۱	۱۰	۱۵	۲۰
۱۱	۲۴	۱۷	۱۴
۱۸	۱۳	۱۲	۲۳

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ
ایک نقش روزانہ لکھ کر آرد گندم
میں گولی بنا کر دریا میں ڈالیں
یہ عمل ایک سال میں پورا ہو جائیگا
لیکن ۱۲ نقش روزانہ لکھ کر دریا میں ڈالا کرے تاکہ عمل ہمیشہ قائم رہے۔
اس کے بعد ہر مقصد کے لئے یہ نقش دیا جا سکتا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ
ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ نیت جائز کی شرط ضروری ہے۔

دست غیب کیلئے ایک اور مجرب عمل

اگر پندرہ کا نقش جو ذیل میں درج ہے ایک لاکھ اسی نقش

... انھیں صرف کر ڈالے لیکن شرع امور میں اس رقم
... اس طرح نہ کرے ورنہ عمل باطل ہو جائے گا۔ نقش

۴	۱۰	۱
۲	۵	۸
۹		۶

عمل برائے رفع تنگدستی و ادائیگی ...

عروج ماہ کی نوچندی جمعرات کو غسل کر کے پاک ...
کونے تنہائی میں بیٹھ کر بشرائط تمام طریقہ عمل چالیس ...
... کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور ...
... شریف کے دو سو مرتبہ دعائے ذیل پڑھیں انشاء ...
اول چلہ میں قرض ادا ہو جانے کی صورت نکلے گی۔ ...
قرض ادا ہو جائے گا۔ اور تیسرے چلہ میں کبھی قرض لینے ...
... پڑے گی اگر چوتھا چلہ پورا کیا تو دوسروں کو قر...
استطاعت ہو جائے گی اور ہمیشہ یہ عمل جاری رکھا تو ...
... اس کے رکھنے کی جگہ نہ رہے گی۔ دعا یہ ہے۔ ...
... حلالِکَ عَنْ حَرامِکَ وَاَغْنِنِی بِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِواکَ

عمل رفع تنگدستی وحصول برکت کے لئے

مندرجہ ذیل نقش مکرم یا باسط کا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ا[illegible]
بہتر نقوش لکھے۔ بہتر نقوش آرد گندم میں لپیٹ کر روزانہ دریا میں
ڈال دیا کرے دوسرے دن بہتر نقش لکھے اول روز والا نقش ج[illegible]
ایک زائد لکھا ہے وہ ان میں ملا دے اور تازہ نقش ان میں سے ایک
نکال لے اور بہتر کو بطریق بالا دریا میں ڈالا کرے۔ چالیس یوم ا[illegible]
طرح کرے۔ آخری دن یعنی چالیسویں روز ان بہتر نقوش کو ملا کر
بنا کے دریا میں ڈالے بہتر نقوش تو ادھر ادھر تیرتے چلے جائیں گے
بہتر والا نقش جو چڑھائی کی طرف چڑھے اس کو پکڑ لے اور لے
آوے اس نقش کو اپنے روپے
پیسے خرچ کرنے بٹوے یا صندوق
میں رکھے انشاء اللہ وہ بٹوہ یا
صندوقچہ کبھی خالی نہ رہے گا۔
اس کی برکت سے بھرا ہی رہے گا نقش یہ ہے

۱۸	۴۸	۶
۳[illegible]		۳۶
[illegible]	یا باسط	۳۰

وسعت رزق کیلئے مجرب ہے

ہر روز بعد نماز عشاء اول وآخر گیارہ بار درود شریف اور
درمیان میں دو سو مرتبہ دعائے ذیل پڑھا کریں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط یا غالِبُ غَیرُ مَغلُوبٍ یا
رازِقُ ذِی القُوَّۃِ المَتِینِ ط

ترقی روزگار ومراتب کیلئے کارآمد عمل

عروج ماہ میں تو چندی جمعرات کو غسل کر کے پاک وصاف کپڑے
پہن کر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر بعد از نماز مغرب دو رکعت نماز حاجت پڑھیں
اس کے بعد اول وآخر سو مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں
موافق اعداد الحمد پڑھیں جو ذیل میں درج ہیں لیکن اکیس روز تک
وقت کی پابندی کریں اور جگہ بھی نہ بدلیں جو طریقہ عمل لکھا جا چکا ہے اس
کے پابند رہیں۔ عمل جس وقت اول روز پڑھا ہے اکیس یوم تک
اسی وقت شروع کیا جائے ختم چاہے وقت ہو پھر انشاء اللہ مقصود
مراد پوری ہو گی۔ بہت مجرب ہے۔ عمل کرنے والے ا[illegible]
کی بدولت بالکل ادنےٰ عہدوں سے نہایت اعلیٰ عہدوں پر
پہنچ جاتے ہیں۔ اعداد سورہ اَلحمد حسب ذیل ہیں۔

ا	ل	ح	م	د	ہ	ر	ب	ع	ی	ن
۱	۳۰	۸	۴۰	۴	۵	۲۰۰	۲	۷۰	۱۰	۵۰
ک	و	س	ح	ت	ص	ط	ق	ذ	غ	ض
۲۰	۶	۶۰		۴۰۰	۹۰	۹	۱۰۰	۷۰۰	۱۰۰۰	۸۰۰

اول دن سورہ الحمد ایک مرتبہ دوسرے دن تین مرتبہ
اسی طرح اکیس یوم اعداد متذکرہ بالا کے مطابق پڑھے۔ بعد
ختم عمل ہر روز بطور وظیفہ پینتیس مرتبہ پڑھتا رہے تاکہ عمل باقی رہے
کہ مجرب ہے

وسعت رزق کیلئے عجیب غریب

آیت مبارکہ، "مالک" یعنی قُلِ اللّٰھُمَّ مٰلِکَ الْمُلْکِ سے تا بِغَیْرِ حِسَابٍ اس طریقے سے پڑھے کہ اول حرف میم جو درمیان مندرجہ کا ۵۴، ایک کاغذ سفید پر لکھ کر ایک کمرہ یا کوٹھری میں جہاں کوئی دوسرا شخص نہ آوے۔ قبلہ رو لٹکاوے اور شروع ماہ نوچندی جمعرات سے بعد نماز صبح عمل شروع کرے یعنی بعد نماز صبح دو رکعت نماز حاجت پڑھے پھر اول و آخر اکیس اکیس مرتبہ درود شریف پڑھے اور اسّی مرتبہ آیہ مذکورہ اس طور سے پڑھے کہ کل حرف میم کے سب میں جو درمیان سے خالی رکھے پڑھتے وقت نظر دوسری جانب نہ کرے۔ چالیس روز تک یہ عمل پڑھے اور جو طریقہ عمل پڑھنے کا ہے اس پر پوری پابندی کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بعد چالیس روز کے کثرت مال و منال سے مالامال ہو جائے گا۔

برائے وسعت رزق

ہر روز نماز عشا کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور درمیان میں تین سو ساٹھ مرتبہ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَتِکَ اَسْتَغِیْثُ پڑھا کرے یہ اسم اعظم ہے۔

قضائے حاجات کے لئے اکسیری عمل

آیت الکرسی اَللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ سے وَھُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ بعد نماز عشا بہ اعداد کرسی یعنی نو سو نوے مرتبہ اول و آخر سو سو مرتبہ درود شریف بپابندی وقت مقام و کل شرائط متعلق چالیس دن تک پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ فتوحات کے دروازے اس پر کشادہ ہو جائیں گے کثرت مال و منال سے مالامال ہوگا۔ عزت و جاہ میں افزونی ہوگی دشمن مقہور ہوں گے اور دوست مہربان ہوں گے۔ محبوب خلاق ہونگے برائے محبت شرعی اس کو پڑھا جائے گا تو کامیابی ہوگی۔ غرض ہر کام کے لئے مجرب ہے۔

نوع دیگر

آیت الکرسی اپنے نام کے اعداد کے برابر بپابندی وقت و چالیس دن تک پڑھے تو تنگ دستی دور ہو کر فقر و فاقہ سے نجات ملے گی۔ غیب سے روزی آئے گی یہ طریقہ بھی نہایت مجرب اور آزمودہ ہے۔

نوع دیگر

آیت الکرسی کسی سخت مہم کے لئے جو اس کو پیش آئے اس طرح پڑھے کہ اول ایک خط بطور حصار اپنے گرد کھینچ لے اول

آخر گیارہ بار درود شریف پڑھ کر درمیان میں ستر بار آیت الکرسی اللہ لا الٰہ الا ھو الحی القیوم سے وھو العلی العظیم تک پڑھے انشاء اللہ ایک ہی روز میں مہم سر ہو جائے گی۔ ورنہ تین روز متواتر پڑھے انشاء اللہ مہم آسان ہو جائے گی

تنگدستی و افلاس دور کرنے کیلئے مجرب عمل

نوچندی جمعرات کی شام کو قریب غروب آفتاب غسل کر کے کپڑے صاف پہنے عطر لگائے نماز مغرب اول وقت بخشوع و خضوع ادا کرے پھر دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے بیٹھ جائے اور پانچ تسبیحیں درود شریف کی پڑھے پھر سورۂ واقعہ کی تلاوت پانچ مرتبہ کرے الا ہر مرتبہ سورۂ ختم کرنے کے بعد ایک ایک دفعہ یہ دعا پڑھے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ط اللھم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ وان کان فی الارض فاخرجہ وان کان بعیدا فقربہ وان کان قریبا فیسرہ وان کان یسیرا فکثرہ وان کان کثیرا فطیبہ وان کان طیبا فبارک لنا فیہ ط برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فسیکفیکھم اللہ وھو السمیع العلیم

آئندہ شب جمعہ تک اسی طرح پڑھتے رہیں مگر نماز حاجت اور درود شریف ہر شب پڑھنے کی کیا ضرورت نہیں آئندہ شب جمعہ میں بجائے پانچ مرتبہ کے چھ مرتبہ سورۂ واقعہ اور چھ ہی مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد ایک ہفتہ کے اندر یہ خواب دیکھا کہ نجاست میں گر گیا

[illegible] گیا تو جان لو کہ افلاس دور ہو گیا

عمل چشتیہ خاص الخاص برائے جملہ حاجات

مشاہدات معینی میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس [illegible] نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ:۔ اے معین الدین جو کوئی سورۂ فاتحہ کو کسی مہم اور حاجت کے واسطے صدق دل سے پڑھے اگر وہ حاجت بر نہ آئے، حشر میں میرا دامنگیر ہو اور فرمایا کہ آثار مشائخ طبقات میں اس درویش نے لکھا دیکھا ہے کہ سورۂ فاتحہ حصول مراد کے واسطے بکثرت پڑھنا چاہئے حضرت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ [illegible] کو کوئی مہم پیش آئے اس سورۃ کو اس طرح عمل میں لائے کہ [illegible] اللہ الرحمٰن الرحیم ط کی میم آخر کو الحمد کی لام سے [illegible] کے ساتھ ملا دے۔ یعنی بسم الرحمن الرحیم پڑھے اور جب [illegible] الضالین پر پہنچے تین بار آمین کہے اللہ تعالیٰ مشکل آسان [illegible] گا۔ پھر اسی موقع فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ:۔ الفاتحۃ شفاء لکل داء یعنی سورۃ فاتحہ ہر درد کے واسطے [illegible] پھر فرمایا کہ ایک دفعہ سلطان ہارون رشید نور اللہ مرقدہ [illegible] سے کسی مرض میں مبتلا تھے۔ اطبا علاج سے دست بردار [illegible] سلطان نے وزیر کو خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ

کیطرف روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ یہاں قدم رنجہ فرما کر دعا فرما
وزیر نے خدمت میں حاضر ہو کر پیغام عرض کیا۔ حضرت خواجہ اٹھ
اور ہارون کے پاس پہونچے اور اس سر پہ ہاتھ رکھا اور سورۃ
فاتحہ اکیس بار پڑھ کر دم کی اسیدم صحت پائی۔

اسی مشاہدات معینی میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز
قدس سرہٗ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں پیرو مرشد کی خدمت میں
بیٹھا تھا اور درویش وہاں موجود تھے اور متقدمین کے مجاہدہ
تھا۔ اس درمیان میں ایک پیر مرد ضعیف و نحیف ہاتھ میں عصا
لئے ہوئے آیا اور سلام کیا۔ حضرت شیخ اٹھے اور بخوشی تمام اس
اپنے پاس بٹھایا اس نے عرض کیا کہ تیس برس ہوئے کہ میرا لڑکا گم ہو گیا
ہے اس فراق میں میرے ہوش و حواس جاتے رہے ہیں اور میرا یہ حال
ہوا ہے حضور سے فاتحہ و اخلاص کی امید رکھتا ہوں۔ جب اس قبلہ
حاجات نے یہ بات سُنی مراقبہ فرمایا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اُٹھا
اور حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ سورۂ فاتحہ سورہ اخلاص
سبھوں نے پڑھی۔ پھر حضرت نے شیخ نے اس بڈھے سے کہا کہ
تم جاؤ تھوڑی دیر کے بعد لڑکے کو یہاں لانا وہ یہ سنتے ہی وہاں
سے چلا۔ ابھی راہ میں تھا کہ ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ
مبارک ہو کہ تیرا لڑکا آ گیا۔ پیر مرد بہت خوش ہوا۔ گھر پہونچا اور
لڑکے کو جو وہاں پایا خوشی کے مارے جامہ میں پھولا نہ سمایا اور یہ
بات زبان پر لایا۔

اے خدا قربان احسانت شوم   ایں چہ احسانت قربانت شوم

پھر وہ بڈھا اپنے فرزند کو ساتھ لے کر حضرت شیخ کی خدمت
میں حاضر ہوا اور سر قدموں پر رکھا اور کے قدمبوسی کرایا اللہ اکبر
یہ خوبیاں سورۂ فاتحہ میں ہیں کہاں تک کوئی بیان کرے

دستِ غیب و کشائشِ رزق کیلئے

مندرجہ ذیل وظیفہ فلاکت و تنگ دستی اور پریشانی لاحق ہو
اس با اعتقاد راسخ ہر روز بلاناغہ بعد نماز عشاء وقت کی پابندی
کے ساتھ دو سو مرتبہ پڑھا کرے اور بارہ عدد یہ نقش ہر روز
سفید کاغذ پر لکھ کر فلیتہ بنا کر کوئلوں کی آگ پر جلا کر خاک ا
کی دریا میں ڈالا کرے۔ انشاء اللہ بعد چند روز کے خزانہ
غیب سے اس کی مدد شروع ہو جائے گی۔ عمل شریف حسب
ذیل ہے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یا ذالعز والجلال
یا واھب الجود والعطاء یا ودود ذو العرش المجید
فعال لما یرید اللھم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء
تکون لنا عیدا لاولنا واٰخرنا واٰیۃ منک وارزقنا
وانت خیر الرازقین ط بحرمۃ تکفیل بحق یا محمد
الغفار ذو المنن علی جمیع خلقہ بلطفہم یا محمد
نقش معظم یہ ہے۔

ے	ح	غ
ع	لا	ے
۶	لا ۱۱۶۱	۹

کشائشِ رزق کیلئے ایک نایاب عمل

معاش کی قلت جب حد سے زیادہ مفلسی نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو تو غیبی امداد حاصل کرنے کے لئے ان آیات کریمہ کو باعتقاد تمام انشاء اللہ تعالےٰ الطفیل و لتصدق اس عمل پاک کے اپنے جمیع مقاصد میں کامیاب ہوگا۔

ترکیب اس عمل کی یہ ہے کہ عروج ماہ میں بروز پنجشنبہ و جمعہ غسل کر کے روزہ رکھے اور قبلہ رو بیٹھ کر سورہ یٰسین پڑھے اندر آیات مبارکہ کو ہرن کی کھال پر سیاہی سے لکھے اور دوات ایسے آدمی کی جو نجیب اور متقی کی ہو جو ممنوعات شرعی سے محترز ہو پھر اس کو باندھ رکھیں ہوں۔ بعدہٗ اس کو کشادہ کرے اور بغیر بحفاظت اپنے پاس رکھے جو کچھ چاہے گا انشاء اللہ خدا سے پائے گا۔ آیات یہ ہیں۔

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ

عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ڏ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ط رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ط۔

ترقی روزگار کیلئے

مندرجہ ذیل آیات مبارکہ کو کاغذ کے چار ٹکڑوں پر لکھ کر ہر چہار کونہ دوکان یا خانہ باغ میں دفن کرے خیر و برکت ہوگی اور مال تجارت میں کثیر نفع ہوگا۔ آیات مبارکہ یہ ہیں۔

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ط وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ط اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ط وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ط

دوکان یا تجارت میں نفع کثیر ہونے کیلئے

چاہیئے کہ ان آیات مقدسہ کو بروز یکشنبہ ساعت شمس میں ہرن کی کھال پر لکھ کر کپڑے میں پیچید کرکے مکان یا دوکان میں دفن کرے بعث کہ نفع حاصل ہو اور رجوع خلق اس کی طرف ہو۔ آیات مقدسہ یہ ہیں۔

اَوْ کَالَّذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرْیَۃٍ وَّهِیَ خَاوِیَۃٌ عَلٰی عُرُوْشِهَا قَالَ اَنّٰی
یُحْیِیْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَۃَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ
قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَۃَ عَامٍ
فَانْظُرْ اِلٰی طَعَامِکَ وَشَرَابِکَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلَی الْعِظَامِ وَلِنَجْعَلَکَ
اٰیَۃً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَی الْعِظَامِ کَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوْهَا لَحْمًا ط
فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ط

حصولِ ملازمت کیلئے نہایت سریع الاثر عمل

ذریعہ معاش سے تنگدست اور پریشان انسان کے لئے مندرجہ ذیل عمل مبارک بیحد سریع التاثیر ہے۔ چاہیئے کہ شروع چاند بروز پنجشنبہ و جمعہ روزہ رکھے اور شب جمعہ کو تمام سورۂ یوسف پڑھے اور بروز جمعہ درمیان ظہر و عصر کے ان آیات مقدسہ کو لکھے اور بازو پر باندھے وقت افطار سورۂ یوسف کو پڑھے اور یہ سورۃ نماز عشاء میں بھی پڑھے الغرض تین مرتبہ سورۃ یوسف پڑھے اور سوتے وقت لا الٰہ الا اللہ و سبحان اللہ اور درود سو مرتبہ پڑھ کر سو جاوے انشاء اللہ [illegible]

ملازمت حاصل ہوگی اور بیکاری دور ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ یہ ہے

وَقَالَ الْمَلِکُ ائْتُوْنِیْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِیْ فَلَمَّا کَلَّمَهٗ قَالَ
اِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِیْنٌ اَمِیْنٌ ط قَالَ اجْعَلْنِیْ عَلٰی خَزَآئِنِ
الْاَرْضِ اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ ط وَکَذٰلِکَ مَکَّنَّا لِیُوْسُفَ فِی
الْاَرْضِ ط یَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَآءُ نُصِیْبُ بِرَحْمَتِنَا
مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ط

حصول روزگار کیلئے ایک اور مجرب عمل

قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو عروج ماہ میں مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے بازو پر باندھے انشاء اللہ فوراً ملازمت حاصل ہوگی۔ اور روزگار سے مستفید ہوگا۔ آیت مبارکہ یہ ہے۔

اِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ
وَاسِعٌ عَلِیْمٌ یَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ط

کشایش رزق کیلئے

کتب معتبرہ میں اس عمل کی نسبت لکھا ہے کہ کشائش رزق کے مقصد کے لئے یہ عمل جادو اثر ہے جو شخص تلاش معاش میں سرگرداں و حیراں ہو اس کی روزی کا کوئی سامان نہ ہو تو چاہیئے کہ نہایت خشوع و

خضوع سے دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے اِنَّا اَعْطَیْنٰا تین بار و اخلاص و معوذتین ہر ایک تین تین بار پڑھے اور بعد سلام یہ دعا پڑھے

اَللّٰھُمَّ یَا رَزَّاقَ الْمُقِلِّیْنَ یَا رَاحِمَ الْمَسَاکِیْنِ وَیَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِیْنَ وَیَا غِیَاثَ الْمُسْتَغِیْثِیْنَ اِغْفِرْلِیْ وَارْزُقْنِیْ وَاَنْتَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ط اَللّٰھُمَّ اِنْ کَانَ رِزْقِیْ فِی السَّمَآءِ فَاَنْزِلْہُ وَاِنْ کَانَ فِی الْاَرْضِ فَاَخْرِجْہُ وَاِنْ کَانَ بَعِیْدًا فَقَرِّبْہُ وَاِنْ کَانَ قَرِیْبًا فَیَسِّرْہُ وَاِنْ کَانَ قَلِیْلًا فَکَثِّرْہُ وَاِنْ کَانَ کَثِیْرًا فَبَارِکْ فِیْہِ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ ط

فراخی رزق کیلئے چند مجرب اعمال

رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو کوئی ہر روز سو بار یہ کہے۔ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ ط حق تعالیٰ اس کو غنی کرے اور فقر سے نجوت رہے گا۔

ایضاً

اور ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کو اکتالیس بار اس دعا کو پڑھے تو مفلسی اور فقر سے نجات پائے گا دعائے معظم یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ عَلٰی نَفْسِیْ وَاَھْلِیْ وَمَالِیْ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ لِیْ فِیْ

قَلِّلْ ذٰلِکَ وَرَضِّنِیْ بِمَا قَضَیْتَ حَتّٰی لَا اُحِبَّ تَعْجِیْلَ شَیْءٍ اَخَّرْتَ وَلَا تَاْخِیْرَ شَیْءٍ عَجَّلْتَ

ایضاً

اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص تنگ حال اور مفلس ہو وہ ہر روز ایک سو بار ان کلمات کو پڑھ لیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ تونگری حاصل ہوگی۔ کلمات یہ ہیں

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ط

ایضاً

صحاح کی حدیث میں مرقوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص افلاس و تنگدستی میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ درمیان سنت و فرض نماز صبح کے ستر مرتبہ اس آیت کو پڑھے خدا تعالیٰ روزگار کی تنگی دور کر دے گا۔ آیت مبارک یہ ہے۔ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰہِ لَا تُحْصُوْھَا اِنَّ اللّٰہَ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ط

ایضاً

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کوئی ہر روز

بعد نماز دس مرتبہ یہ اَللّٰھُمَّ اکْفِنِیْ بِحَلَالِکَ عَنْ حَرَامِکَ
وَاَغْنِنِیْ بِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِوَاکَ انشاء اللہ دو جمعہ بھی نہ گذریں گے کہ
اللہ اس کو غنی کر دے گا۔

ایضاً

اور ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو روزانہ پڑھنے والا فقر و فاقہ
سے محفوظ رہتا ہے۔

تَوَکَّلْتُ عَلَی الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَمْ
یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَکُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ وَلِیٌّ
مِّنَ الذُّلِّ وَکَبِّرْہُ تَکْبِیْرًا ط

ایضاً

اور ارشاد فرمایا کہ مفلس و محتاج انسان اس دعا کو ہر روز
اپنے پاس رکھے انشاء اللہ غنی ہو جائے گا۔

اَللّٰھُمَّ اَسْئَلُکَ عَالِمَ السِّرِّ وَالْخَفِیَّۃِ یَا مَنِ السَّمٰوٰتُ
مُطْوِیَّۃٌ وَیَا مَنِ الْاَرْضُ بِعِزَّتِہٖ وَجَلَالِہٖ مُکَلَّلَۃٌ وَیَا مَنِ الْاَنْوَارُ
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُضِیْئَۃٌ مِنَ الدِّیَاجِ مُنِیْرَۃٌ مِنْ ذَاتِہٖ مِنْ
اَوْتَادٍ نَاسِیَۃٍ وَیَا مَنِ الْجِنُّ یُوْشَعُ مِنْ دَقِّ عُبُوْدِیَّۃٍ
[illegible] یَا مَنْ اِسْمُہٗ فِی التَّوْرٰۃِ اُحْیَا
اُحْیَا وَمَنْ اِسْمُہٗ فِی الْاِنْجِیْلِ شَا مِلًا وَمَنْ اِسْمُہٗ فِی الزَّبُوْرِ
ابَا مَرْبَا یَا مَنْ اِسْمُہٗ فِیْ صُحُفِ اِبْرَاھِیْمَ اَسْئَلُکَ وَیَا

فِی الْقُرْاٰنِ اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ اَللّٰھُمَّ یَا
رَبَّ الْعَالَمِیْنَ یَا خَالِقَ الْخَلْقِ [illegible] یَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَیَا
بَاعِثَ الصَّوْتِ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ ھٰذِہِ الْاَسْمَآءِ الْعِظَامِ [illegible] فِیْھَا
[illegible] اَنْ تَفْتَحَ عَلَیَّ اَبْوَابَ الرِّزْقِ وَالْخَیْرِ وَاَسْرَارَ کُنُوْزِ السَّعَادَۃِ
[illegible] مِنْ حَیْثُ مَا کَانَ وَحَیْثُ مَا تَوَجَّہَ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ
قَدِیْرٌ ط وَصَلَّی اللّٰہُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ اَجْمَعِیْنَ ط

تنگدستی دور کرنے کیلئے ایک مجرب عمل

مفلسی اور تنگدستی دور کرنے کے لئے اس آیت مبارک کو روزانہ
[illegible] بار بعد نماز عشاء تلاوت کرنا نہایت سریع الاثر ہے۔ آیت مبارکہ

وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا وَّیَرْزُقْہُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ
وَمَنْ یَّتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰہِ فَھُوَ حَسْبُہٗ اِنَّ اللّٰہَ بَالِغُ اَمْرِہٖ قَدْ
جَعَلَ اللّٰہُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا ط

ادائے قرض کیلئے ایک نہایت کامیاب عمل

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی
[illegible] مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو نماز ایسی اور سکھا دیجئے
[illegible] کے پڑھنے سے میرا قرض ادا ہو جائے کہ وہ قیاس سے زیادہ
ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہر روز

پنجشنبہ دو رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ رکعت اول میں بعد فاتحہ کے اِنَّا اَنْزَلْنَاہُ دس بار اور قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ایک بار بعد سلام پھیرے اور یہ دعا پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ الْخَلْقَ وَلَمْ یَخْلُقْھُمْ بِجَلْبِ مَنْفَعَۃٍ لَا یَزِیْدُ فِیْ مُلْکِہٖ بِاَمْرِ الْمُطِیْعِیْنَ وَیَعْبُدُ وَیَسْتَطِیْعُ وَیُطَاعُ وَیُعْتَدِیْ وَیَخْشٰی وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ وَمُنْتَھٰی فِیْ عَلَیْہِ پھر اٹھے اور دو رکعت نماز اور پڑھے رکعت اول میں بعد فاتحہ کے وَالْعَادِیَاتِ دس بار اور اخلاص ایک بار اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ایک بار اور رکعت دوم میں بعد فاتحہ کے سورۃ قُلْ یٰاَیُّھَا الْکٰفِرُوْنَ دس بار اور اخلاص و قل اعوذ برب الناس ایک ایک بار اور بعد سلام کے یہ دعا پڑھے قرض ادا ہوگا۔

سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّۃِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَلَہُ الْکِبْرِیَاءُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَھُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ یَا مَنْ ذِکْرُہٗ وَیَا مَنْ شُکْرُہٗ فَوْزٌ لِلشَّاکِرِیْنَ وَیَا مَنْ طَاعَتُہٗ نَجَاۃٌ لِلْمُطِیْعِیْنَ وَیَا مَنْ ھُوَ مَلْجَأُ الْعَاصِیْنَ وَمَنْ لَا یَخْفٰی عَلَیْہِ ثَنَاءُ الْمُحْتَاجِیْنَ وَمَنْ لَا یَنْقَطِعُ عَنْہُ رَجَاءُ السَّائِلِیْنَ اَسْئَلُکَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ وَمُنْتَھَی الرَّحْمَۃِ مِنْ کِتَابِکَ وَبِاسْمِکَ الْاَعْظَمِ وَجَدِّکَ الْاَعْلٰی وَکَلِمَاتِکَ التَّامَّاتِ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَقْضِیَ دَیْنِیْ بِمَا شِئْتَ یَا مُقْتَدِرُ

حصولِ دولت و عزت کے لئے

اگر کوئی شخص دولت و عزت کا خواہشمند ہو تو چاہئے کہ مندرجہ ذیل عمل ہر روز بلاناغہ بعد نماز عشاء ہمیشہ پچاس مرتبہ پڑھا کرے۔ انشاء اللہ خاطر خواہ کامیابی ہوگی۔ عمل مبارک یہ ہے۔

یَا دَائِمَ الْعِزِّ وَالْبَقَاءِ یَا وَاھِبَ الْجُوْدِ وَالْعَطَاءِ یَا وَدُوْدُ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِیْدُ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْدُ۔ اَللّٰھُمَّ اَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَۃً مِّنَ السَّمَآءِ تَکُوْنُ لَنَا عِیْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰیَۃً مِّنْکَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ وَیَا حَمِیْدَ الْفِعَالِ ذُوالْمَنِّ عَلٰی جَمِیْعِ خَلْقِہٖ بِلُطْفِہٖ یَا حَمِیْدُ

حصولِ دولت کیلئے ایک عمل

آیت ذیل کو تنہائی میں بیٹھ کر شب کے وقت اکتالیس روز بلاناغہ ہر روز ایک ہزار بار پڑھیں اول و آخر درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ دوران تلاوت میں کسی سے بات نہ کیا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ مدت مقررہ ختم ہونے پائے گی۔ کہ غیب سے دروازے روزی کے کھل جائیں گے۔ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے مجرب و آزمودہ ہے۔ آیت یہ ہے۔

وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا وَّیَرْزُقْہُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَّتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰہِ فَھُوَ حَسْبُہٗ اِنَّ اللّٰہَ بَالِغُ اَمْرِہٖ قَدْ جَعَلَ

اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ؕ

قضائے حاجات کیلئے ایک عظیم المنافع دعا

حضرت محمد مصطفےٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حصول مقصد کے لئے یہ تمام دعاؤں کا سرتاج ہے اور حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالےٰ عنہ نے بھی اس دعائے معظم کا نام جامع الکلام رکھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالےٰ عنہ نے فرمایا ہے جو کوئی اس دعا کو اپنا وظیفہ کرے اس کی درماندگی اور پریشانی دور ہو اس دعائے معظم کی نسبت تمام اصفیہ اور جمیع حاجات دینی و دنیوی کے حصول کے لئے بخط اور موثر وظیفہ لکھا ہے افادہ عام کے لئے درج ذیل ہے۔

چاہیے کہ جب کوئی مشکل ایسی پیش آئے جو کسی تدبیر سے حل نہ ہوتی ہو تو اس وقت بعد نماز عشاء کم سے کم ایک بار اور زیادہ جس قدر تلاوت ممکن ہو کرے۔ انشاء اللہ تعالےٰ غیبی امداد حاصل ہوگی اور وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ دعائے معظم یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَحْمَدُكَ عَلٰى كُلِّ نِعْمَةٍ وَّاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاَسْتَعِيْنُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَّبَلَاءٍ وَّلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ؕ

قضائے حاجات دینی و دنیوی کیلئے مجرب عمل

اگر کسی کو سخت حاجات پیش آجاوے اور وہ کسی طرح پوری نہ ہوتی ہو تو اس وقت چاہیے کہ چالیس دن تک روزانہ نماز عشاء کے بعد مکان خالی میں یہ اسم گیارہ سو مرتبہ پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ حاجت پوری ہوگی۔ بہت مجرب ہے۔ بعض علماء نے اس اسم پاک کو اسم اعظم لکھا ہے۔ اسم پاک یہ ہے۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ

قضائے حاجات کیلئے تیر بہدف عمل

جو شخص چالیس دن تک کسی مہم سخت کے لئے آدھی رات کے بعد بیچ دریا میں کھڑا ہو کر روزانہ گیارہ سو مرتبہ ذیل کی آیت پڑھے اور اول و آخر اس کے اکیس مرتبہ درود پڑھے تو ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر دریا پر جانا ناممکن ہو تو ایسے مکان میں جس کے نیچے تہ خانہ ہو پڑھے اور اپنے سامنے ایک طشت میں پانی بھر کے رکھ لے۔ چہرے اور سینہ پر پانی کا ہاتھ پھیرنا چاہیے لیکن مکان میں چراغ نہ جلائے۔ اگر گرمی زیادہ معلوم ہو تو کسی کوزہ میں پانی لے کر درود پڑھے اور دم کرے اور پی لے جو درود یاد ہو وہ جتنا چاہے پڑھے بہت مجرب اور آزمودہ ہے مگر یہ یاد رہے کہ جو شخص پابندی سے نماز نہ پڑھتا ہو وہ اپنی دعا قبول ہونے کی قطعی امید نہ رکھنا چاہیے۔ پابندی نماز بہت ضروری ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ؕ

انقضائے حاجات کیلئے نادِ علی کا نادر عمل

صوفیائے کرام اور اولیائے عظام نے اس عمل مبارک نادِ علی کے خواص اور اسناد کتب معتبرہ نہایت طول و طویل تحریر فرماتے ہیں۔ اس مختصر کتاب میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان سب کو بیان کیا جائے تاہم افادۂ عوام کی خاطر سے مختصراً تحریر کئے جاتے ہیں۔ عمل مبارک یہ ہے

نَادِ عَلِیًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَّکَ فِی النَّوَائِبِ کُلُّ هَمٍّ وَّغَمٍّ سَیَنْجَلِیْ بِنُبُوَّتِکَ یَا مُحَمَّدُ بِوَلَایَتِکَ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ۔

اسناد اس کی یہ ہے کہ :

اگر کوئی گرفتار اعداء دشمن ہو تو سات بار اس کو پڑھ کر ان دشمنوں کی طرف پھونکے انشاء اللہ تعالیٰ وہ مقہور ہوں گے۔

اگر کسی پر جادو کیا گیا ہو تو اس کو سات بار پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اس پانی سے اس کو غسل کرائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جادو باطل ہوگا۔

اگر کسی کو زہر دیا گیا ہو تو ... و زعفران سے چینی کے برتن پر لکھے اور دھو کر پلائے۔ انشاء اللہ صحت پاوے گا لیکن پہلے بارہ بار پانی پر دم کر کے پلاوے۔

حصول دولت کے لئے ہر روز سولہ بار پڑھے انشاء اللہ جلد از جلد مراد دلی پوری ہوگی۔

ترقی درجات، و افزونی مراتب اور تسخیر سلاطین کے لئے ہر روز سو بار پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔

بغض و عداوت ... کے لئے تین روز ہر روز ۲۵ بار پڑھے انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔

حصول شجاعت اور دفع جن و آسیب کے لئے بیس روز ہر روز پچاس بار پڑھے۔

شفائے بیمار شدید کے لئے ستر بار بر ساق پانی پر پڑھ کر بیمار کو پلائے

دفع اعداء کے لئے اور ان کو ذلت پہونچانے کے لئے چھ روز ہر روز ستر بار پڑھے

حاسدوں کو خوار و ذلیل کرنے کے لئے دس روز ہر روز ہزار بار پڑھے کامیابی ہوگی۔

سخت مہم اگر در پیش ہو تو چالیس روز ہر روز چھیاسٹھ بار پڑھے انشاء اللہ وہ مہم سر ہو جائے گی

دفع جن کے لئے پندرہ مرتبہ پانی پر دم کر کے جس پر جن آتا ہو اس کے منہ پر ڈالے

اگر کوئی کسی شدید غم میں مبتلا ہو ہزار بار پڑھے وہ غم اسی کا خوشی سے بدل جائے گا

اگر کوئی ظالم بادشاہ کے سامنے جانے والا ہو تو تین مرتبہ اس کے سامنے پڑھے غصہ اس کا بر طرف ہوگا۔

اگر کسی پر تہمت لگائی گئی ہو تو صبح کے وقت اول ساعت چالیس بار پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے تہمت اس سے دفع ہو

اگر کسی کو غنی ہونے کی خواہش ہو ہر صبح کو پہلے کام کرنے سے پہلے ۱۱ مرتبہ اس کو پڑھے انشاء غنی ہو جائے گا۔

زیادتی دولت و حشمت کے لئے ہر روز پانچسو بار پڑھے۔
اگر کوئی دشمن کو مطیع و فرمانبردار کرنا چاہے تو تین روز اٹھارہ بار
روزانہ پڑھا کرے
سخت مہم کو سر کرنے کے لئے دوگانہ گذار کر ستر بار پڑھے۔
انشاء اللہ خاطر خواہ کامیابی ہوگی۔
دشمنوں کی زبان بندی کے لئے ہر روز دس بار پڑھے۔ جو کوئی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کی تمنا رکھے ہزار بار
کو پڑھا کر سویا کرے
وسعت رزق کے لئے ستر روز پانچسو بار پڑھے۔ قیدی
رہائی کے لئے ایک ہفتہ ہر روز ایک سو ساٹھ مرتبہ پڑھے قید
فراخیٔ رزق کے لئے اس طرح کرے کہ بعد نماز عشا بارہ رکعت
نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے سورہ اخلاص تین مرتبہ
پڑھے اور بعد سلام کے ستر بار کلمۂ تمجید پڑھے پھر اس اسم کو
بار پڑھ کے سو رہے انشاء اللہ تعالیٰ روزی بہت ملے گی۔

نمازِ حاجت

دینی و دنیوی حاجت کے لئے اگر کوئی پریشان ہو تو اس
کرے کہ پہلے غسل کرے اور پاک و صاف کپڑے پہنے بعد اس
رکعت نمازِ حاجت اول شب جمعہ میں اس طرح ادا کرے کہ
اول میں بعد فاتحہ کے سو بار اُفَوِّضُ اَمْرِیْ اِلَی اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ

اور رکعت دوم میں بعد فاتحہ کے سو بار نَصْرٌ مِّنَ اللّٰہِ وَفَتْحٌ قَرِیْبٌ
اور رکعت سوم میں بعد فاتحہ کے سو بار لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَا
نَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ اور رکعت چہارم میں بعد فاتحہ
سو بار غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ پڑھے۔ ۔۔۔
۔۔۔ اور سو بار یہ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ
كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ انشاء اللہ تعالیٰ مقصود پورا ہو جائے گا۔

قضائے حاجات کیلئے ایک مجرب عمل

جو کوئی شخص ہر رات کو یہ عمل مبارک جس کو شش قفل کہتے ہیں
اور لکھ کے اپنے پاس رکھے وہ مرگ ناگہانی سے محفوظ رہے
بادشاہ کے ظلم سے اُسے کوئی نقصان نہ پہونچے اور آگ سے
کی ایذا رسانی سے ساحروں کے جادو سے اور دیو پری
اثرات سے محفوظ رہے۔ بھوک و پیاس کی تکلیفوں سے عسرت
کی مصیبتوں سے اور سخت امراض سے امن میں رہے۔
عورت کے بچہ ہوتا ہو یا ہو کے مر جاتا ہو شیرینی پڑھ کر اسے کھلائے
اولاد ہوگی۔ اسقاط اولاد کے لئے اگر حاملہ پڑھ کے پھونکے تو
گمشدہ مال کے لئے آگ پر پڑھے اور اسے پانی
مال مل جائے۔ جس پر جادو کیا گیا ہو اس کے کان میں
کے دم کرے جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ جو شخص قرآن پاک بھول
اس کے کان میں پڑھے انشاء اللہ اس کا حافظہ تیز ہوگا۔

باوضو شب کو پڑھ کے سو رہے تو خواب میں زیارت نبوی ہوگی ۔
اور لکھ کے اپنے پاس رکھے تو اس کی دعا مقبول ہوگی اور مخلوق
اس کو عزیز رکھے گی ۔ عمل مبارک یہ ہے ۔

قفل اولی

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط بسم اللہ السمیع البصیر
لیس کمثلہ شیء وھو السمیع العلیم ا وھو بکل شیء علیم ط

قفل دوم

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط بسم اللہ الخلاق العلیم
الذی لیس کمثلہ شیء وھو الفتاح العلیم

قفل سوم

بسم الرحمن الرحیم ط بسم اللہ السمیع العلیم
الحلیم البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وھو العلیم البصیر
الذی لیس کمثلہ شیء وھو العزیز العلیم ط

قفل چہارم

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط بسم اللہ السمیع
البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وھو الغنی القدیر ط

قفل پنجم

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط بسم اللہ الذی لیس
کمثلہ شیء وھو العزیز الغفور ط

قفل ششم

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط بسم اللہ الذی لیس
کمثلہ شیء وھو العزیز الغفور الحکیم ط فاللہ خیر حافظا و

وھو ارحم الراحمین ط

نوٹ :۔ اس عمل مبارک کو پڑھتے وقت نیت جائز ہو اور
طہارت کا خیال رکھا جائے ۔ لباس پاکیزہ اور جگہ پاک صاف ہو۔
ہر مقصد کے لئے اس کی معینہ تعداد کے موافق پڑھا جائے ۔ انشاء اللہ
ضرور کامیاب ہوگی ۔

تکبیر عاشقان

قضائے حاجات کے لئے بے مثال عمل

درمیان نماز مغرب اور نماز عشاء کے پڑھنا اس کا دوا تا واسطے
جمیع حاجات دنیوی اور دینی کے مفید ہے ۔

منقول ہے حضرت شاہ قلندر ثالث قدس سرہ سے بسم
اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ خیر الاسماء ط انبیاء را
اولیاء را اذہا عابدرا اوتاد سالکان را ناسکان را محبان را محبوبان را
مطلوبان را مجذوبان را مجذوب سالک را سالک مجذوب را اصحاب
تمکین را ارباب ذوق را اہل صحو را تشنگان را کنج سلامت را
روندگان راہ ملامت را قلندران سرمست را ۔ صوفیان زندہ دست را
سلسلۂ طبقۂ حیدریان را غلغلۂ موہبان را شاہان عرب را
سرداران عجم را بندگان زنگیان را امیران خراسان را سلطان
ہند را خلفائے سندھ را سرداران غزنویان را طرقیان تبت و

چین را چابکسواران بدخشان را عاشقان غور را مشتاقان ماوراء النہر را واصلان بحر و بر را شہیدان دشت کربلا را کہ حیات ظاہری باطنی دارند بدرگاہِ خدا شفیع می آرم برائے برآمدن حاجات مہمات دینی و دنیوی ہر کہ درآید در افتد بر افتد ہر کہ ذکر کند جگر خورد چون تکبیر عاشقان بگوید اللّٰہُ اَکْبَرُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ط بحق لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ یَا قَدِیْمُ یَا دَائِمُ یَا قَیُّوْمُ یَا بَاقِیْ یَا مُنْتَقِمُ یَا قَادِرُ یَا اِلٰہَ الْاَوَّلِیْنَ یَا اِلٰہَ الْاٰخِرِیْنَ ط ہر کہ مارا بدخواہ و بد گوید ضربت لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ بر جان او ذوالفقار علی بر گردن او گرز حمزہ بر پشت او عصائے موسیٰ کلیم اللہ بر جگر او ارہ ذکریا بر سر او کرم ایوب در بطن او تیغ رجال الغیب و قہر خدا در مقہوری او بحق یا بدوح یا بدوح یا بدوح

گردش ما جامِ شکستہ ہر کہ بدخواہ منست
باز کردہ باد ہر خارکہ در راہ منست

اَللّٰہُمَّ یَا مَنْ تَفَرَّدَ بِنُصْرَۃِ الضُّعَفَآءِ وَالْخَلْقُ عَجَزُوْا عَنْ ذٰلِکَ اَللّٰہُمَّ سُدَّ لِسَانَ اَعْدَآءٍ وَلَا تُشْمِتْ بِیَ الْاَعْدَآءَ وَاَظْفِرْنِیْ عَلٰی جَمِیْعِ الْاَعْدَآءِ قَالَ مُوْسٰی مَا جِئْتُمْ بِہِ السِّحْرُ ط اِنَّ اللّٰہَ سَیُبْطِلُہٗ ط اِنَّ اللّٰہَ لَا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِیْنَ ط وَیُحِقُّ اللّٰہُ الْحَقَّ بِکَلِمٰتِہٖ وَلَوْ کَرِہَ الْمُجْرِمُوْنَ

دیگر

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ شَافِیْ بِسْمِ اللّٰہِ

کافی بِسْمِ اللّٰہِ مُعَافِیْ بِسْمِ اللّٰہِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِہٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ط

بسم اللہ خیر الاسماء انبیا را اولیا را زہاد را عباد را غوث را قطب را اوتاد را شہسواران جبروت را سرہنگان لاہوت را نوث الملکوت را وزرات الغیث را وسالکان را و ... و محبان را و محبوبان را و محبوبیان را مجلوقان را مجذوب سالک را و سالک مجذوب سالک را و صاحب تمکین را حاجت طلبی را و اہل سکر را و اہل صحو را و لستستگان گنج سلامت را دروندگان راہِ ملامت را و قلندران سرمست را و صوفیانِ زبردست را و سلسلۂ طبقہ حیدریان را و غلغلہ موہیان را و شاہانِ عرب را و سردارانِ عجم را [redacted] را و امیرانِ خراسان رو تغلقائے سندھ را و خاکساران ہند را و طرقانِ تبت را و نقاشانِ چین را و چابکسوران بدخشان و تیر اندازانِ غزنوی را و عاشقانِ غور را و مشتاقانِ ماوراء النہر را و واصلانِ بر و بحر را و شہیدانِ دشتِ کربلا را بدرگاہِ تو شفیع می آرم برائے برآمدنِ حاجات و مہمات و مشکلات دینی و دنیوی و حصولِ محبت و عشقِ الٰہی ہر کہ در افتد بر افتد ہر کہ ذکر کند جگر خورد و چون تکبیر عاشقاں بر آید باذن اللہ و رسولہ اللّٰہُ اَکْبَرُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

قضائے حاجات کیلئے مجرب عمل

اکثر اولیائے کرام سے منقول ہے کہ جو کوئی اس عمل مبارک کو پڑھے گا کل حاجات دینی و دنیوی بر آویں گے یعنی اول آٹھ دفعہ سورۂ الحمد اور سو بار درود شریف اور اٹھاسی دفعہ الم نشرح اور ہزار سورۂ قل ہو اللہ احد اور پھر آٹھ بار الحمد اور پھر درود شریف سو بار پڑھے اس کو ختم خواجگان بھی کہتے ہیں اور بعد درود کے یا قاضِی الحاجات سو بار یا کافِی المُہمّات سو بار یا شافِی الاَمراض سو بار۔ یا دافع البلیات سو بار۔ یا حلّال مشکلات سو بار یا رافع الدرجات سو بار۔ ان اسمائے مبارکہ کو پڑھنا بھی آیا ہے۔ اس عمل مبارک کو بادام یا تسبیح پر پڑھے۔ اکثر مرتبہ کا مجرب ہے۔ فوراً کامیابی ہوتی ہے


قضائے حاجات کے لئے دعائے معظم

سخت سے سخت مشکل کو آسان کرنے کے لئے اس دعائے معظم کو کثرت سے تلاوت کرے انشاء اللہ تعالےٰ بہت جلد کامیابی ہوگی۔ مجرب ہے

نجاۃً منّدق یا سیدَ الکریمِ مخلّصنا بحقِ بسم اللہِ الرحمٰنِ ط

قضائے حاجات کے لئے نقش بست و بست

یہ نقش معظم ہر مقصد کے لئے عجیب الاثر ہے۔ چاہئے کہ پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے بعد حسب مقصد کے لئے چاہے اس کو لکھے۔ انشاء اللہ تعالےٰ کامیابی ہوگی۔ زکوٰۃ اس نقش کو سوالاکھ کی تعداد میں ایک چلہ کے درمیان کاغذ پر لکھ کر آٹے میں گولیاں بنالیں اور دریا میں ڈالدیں۔ زکوٰۃ پوری ہوگی۔ زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔



اس کے بعد ہر مقصد کے لئے نقش کامیاب ثابت ہوگا۔ زکوٰۃ کے بعد سوا سیر حلوے کا ناشتہ پکا کر دریا کے کنارے رکھ آوے

القضائے حاجات کیلئے بسم اللہ شریف کا عمل

بسم اللہ شریف کے مبارک عمل کے خواص مختلف کتب میں بیشمار تحریر ہیں ان میں سے مختصراً ہدیۂ ناظرین ہیں۔ موافق تحریر اس پر عمل کر کے فوائد حاصل کئے جائیں۔

اگر کوئی شخص بوقتِ خواب بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ بار بلاناغہ تلاوت کر لیا کرے تو وہ اس رات کو شیطان کے اور چور کے نقصان سے اور مرگ ناگہانی سے محفوظ رہے گا۔

اگر کوئی شخص بسم اللہ شریف ...

کسی جابر ظالم حاکم کے روبرو جائے وہ نرمی سے پیش آئے گا
اور اس کی حاجت پوری کر دے گا۔

اگر بسم اللہ شریف کو اکسٹھ بار لکھ کر جس عورت کے اولاد
نہ رہتی ہو اس کے گلے میں ڈال دیجائے تو اس کی اولاد زندہ
رہے گی۔

اگر بسم اللہ شریف کو ایک کاغذ پر ایک سو ایک بار لکھ کر اپنے
کھیت میں دفن کر دے تو موجب سرسبزی زراعت کا ہو

اقتضائے حاجات کے لئے مجرب عمل

ان آیات مقدسہ کے خواص بہت ہیں جس کا مشاہدہ عامل کو
ہو سکتا ہے۔ اقتضائے حاجات دینی و دنیوی کے لئے ایک تیر بہدف
کبھی خطا نہ ہونے والا اور زود اثر عمل ہے۔

عروج ماہ میں مبارک ساعت میں سفید کاغذ پر زعفران و
گلاب سے لکھ کر اپنے بازو پر باندھے۔ عزیز خلائق ہوگا۔ دربار
میں عزت ہوگی۔ مرتبہ بلند ہوگا۔ دولت کا خواہشمند ہو تو وافر دولت کا
مالک بنے گا۔ دشمن دوست ہو جائے گا اور دوست عاشق زار ہوں گے
زراعت میں تجارت کافی منفعت حاصل ہوگی۔ غرضکہ جملہ امور دینی و
دنیوی میں کامرانی نصیب ہوگی۔ اگر ان آیات کو عروج ماہ میں بروز
پنجشنبہ بساعت مشتری اکیس بار پڑھ کر پانی یا کسی اور چیز پر دم کر کے
کسی کو کھلا دے تو اس کے عشق میں مبتلا ہو جاوے آیات یہ ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ۔ وَاَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِّنِّیْ

وَلِتُصْنَعَ عَلٰی عَیْنِیْ اِذْ تَمْشِیْ اُخْتُکَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّکُمْ عَلٰی
مَنْ یَّکْفُلُهٗ فَرَجَعْنٰکَ اِلٰی اُمِّکَ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّیْنٰکَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰکَ فُتُوْنًا ۔ زُیِّنَ
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِیْنَ وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِکَ
مَتَاعُ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۔ قُلْ
اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۔ یُحِبُّوْنَهُمْ کَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۔ وَلَوْ یَرَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ
اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعَذَابِ ۔ قَدْ شَغَفَهَا
حُبًّا اِنَّا لَنَرٰهَا فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۔ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی
اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِیْنَ ۔ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَی
الْمُؤْمِنِیْنَ اَعِزَّةٍ عَلَی الْکٰفِرِیْنَ ۔ یُحِبُّوْنَ اَنْ یُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ
یَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
اَلِیْمٌ ۔ فَقَالَ اِنِّیْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّیْ حَتّٰی تَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ ۔ رُدُّوْهَا عَلَیَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۔
هُوَ الَّذِیْ اَیَّدَکَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِیْنَ وَاَلَّفَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ
وَلٰکِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَیْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ۔ یُوْسُفُ
اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِیْ لِذَنْۢبِکِ اِنَّکِ کُنْتِ مِنَ
الْخٰطِئِیْنَ ۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدِیْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِیْزِ تُرَاوِدُ
فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهٖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرٰهَا فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۔

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى
وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
شَكُوْرٌ ط عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ
عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ط وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ○ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ط وَاُخْرٰى
تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ط يَا حَبِيْبُ الْمُدَبِّرِيْنَ
حَبِّبْ مُحَبَّتِيْ عَلٰى قَلْبِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّ
حْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ يَا مُفَتِّحُ تین مرتبہ
يَا سَمِيْعُ تین مرتبہ يَا اَللّٰهُ بعدہ يَا رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِيْ
بِحَقِّ صَفِيِّ اللّٰهِ وَبِحَقِّ نُوْحٍ نَّجِيِّ اللّٰهِ وَبِحَقِّ اِبْرَاهِيْمَ
خَلِيْلِ اللّٰهِ وَمُوْسٰى كَلِيْمِ اللّٰهِ وَعِيْسٰى رُوْحِ اللّٰهِ
وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلِيٍّ وَّلِيِّ اللّٰهِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ
تَعَالٰى عَلَيْهِ

۱۱ ۱۹ ۱۸ ۱۳ ۶ ۱۱ ۵ ھ ۲۹ ۹۲ ۸۲ ۹ ۸۲ ۶ ۲۱۲

قیدی کی رہائی کے لیے مجرب عمل

ناکردہ گناہ کے طور پر اگر کوئی شخص قید ہو گیا ہو اور اس کی رہائی کی کوئی صورت نہیں بنتی نظر آتی تو مندرجہ ذیل آیۃ کریمہ کسی سفید کاغذ پر زعفران و گلاب سے لکھ کر ۱۳ کی انگلی

میں رکھے - انشاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت جلد از جلد رہائی نصیب ہو گی - آیت کریمہ یہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ط فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ
اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ط

یہ عمل صرف ان قیدیوں کے لئے کیا جائے جو صرف ناکردہ گناہ ہوں

حاجاتِ دلی کیلئے برلانے میں مجرب عمل

جب کوئی حاجت اور اہم مشکل حاجت پیش آ جائے - تو اس وقت معبود حقیقی پر کامل بھروسہ کر کے چار رکعت نماز حاجت پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ حصول مقصد کے لئے اکسیر ثابت ہو گی - بالکل بے خطا ہے، آزمودہ اور مجرب ہے -

ترکیب یہ ہے کہ چار رکعت نماز حاجت کی نیت باندھے اور رکعت اول میں بعد تلاوت سورۃ فاتحہ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ سے [illegible] بِغَيْرِ حِسَابٍ ط پندرہ مرتبہ پڑھے - رکعت دوم میں بعد تلاوت الحمد شریف [illegible] اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ پندرہ مرتبہ پڑھے اور رکعت سوم میں بعد تلاوت الحمد شریف کے قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ پندرہ مرتبہ پڑھے پھر رکعت چہارم میں بعد تلاوت الحمد شریف کے قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پندرہ مرتبہ پڑھے پھر بعد سلام کے

اعلیٰ الدرجات وتبلغنا بها اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیوٰة وبعد الممات ط

دعائے معظم

معتبر روایات سے اس دعائے معظم کے اسناد و خواص کثیر ہیں۔ عامل اس کا مشاہدہ خود کرے گا۔ اختصار کے ساتھ اس کے خواص تحریر ہیں۔ مختلف اصفیا نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا جمیع آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہے گا۔ اور زہر کے اثرات اس پر کارگر نہ ہوں گے۔ اگر کوئی سخت سے سخت امراض میں مبتلا ہو۔ حکیم ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں تیمار دار اکتا چکے ہوں تو اس دعائے معظم کو کورے برتن پر لکھ کر پانی بھر کر دھوئیں اور مریض کو پلائیں۔ انشاء اللہ شفایاب ہوگا۔ اگر کسی کے اولاد نہ ہوتی ہو یا ہو کر مر جاتی ہو تو نوچندی جمعرات کو دونوں میاں بیوی بہ نیت سنت روزہ رکھیں۔ اور اس دعا کو لکھ کر کورے برتن ... دھو کر اس پانی سے روزہ افطار کریں۔ خداوند تعالے فرزند نرینہ عطا کرے گا۔ خدائے تعالے کشائش رزق کے لئے بھی اکسیر صفت ہے۔ دفع فساد کے لئے تیر بہدف ہے۔ دفع آسیب پری و جن کے لئے لاثانی چیز ہے۔ دفع دشمن اور دشمن پر فتح پانے کے لئے حرز جان ہے۔ اگر وضع حمل کے لئے موم جامہ کر کے پیٹ پر باندھیں تو آسانی ہو۔ دعائے معظم یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط سبحانک

دس مرتبہ یہ پڑھے

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ط رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ط وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ط یا من لا یخفی علیہ انباء ... برحمتک یا ارحم الراحمین ط

اسی طرح اکیس یوم بلاناغہ پڑھتا رہے انشاء اللہ تعالے گوہر مراد ہاتھ آئے گا۔ بیحد مجرب اور آزمودہ ہے۔

قضائے حاجات کے درود شریف

جب کوئی حاجت دینی یا دنیوی درپیش آئے تو چاہیے کہ عروج ماہ نوچندی جمعرات کو غسل کرے لباس پاکیزہ پہنے اور بعد نماز عصر کے زیر آسمان سر برہنہ کھڑا ہو اور ایک ہزار مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اور اسی طرح ہر روز پڑھتا رہے کسی دن ترک نہ کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہفتہ نہ گزرنے پائے گا کہ مراد دلی حاصل ہو گی۔ درود پاک یہ ہے

اللھم صل علی سیدنا محمد صلوٰۃ تنجینا بھا من جمیع الاھوال والآفات وتقضی لنا بھا من جمیع الحاجات وتطھرنا بھا من جمیع السیئات وترفعنا بھا عندک

اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ یَا عَالِمَ السِّرِّ وَالْخَفِیَّاتِ یَا قَاضِیَ الْحَاجَاتِ یَا سَامِعَ الدَّعَوَاتِ اَللّٰهُمَّ اَحْیِنِیْ سَعِیْدًا وَّاَمِتْنِیْ سَعِیْدًا وَّاحْشُرْنِیْ فِی الزُّمْرَةِ السُّعَدَاءِ فَاغْفِرْلِیْ سَیِّئَاتِیْ یَا عَظِیْمُ بِعَظَمَتِكَ یَا کَرِیْمُ بِکَرَمِكَ یَا جَوَادُ بِجُوْدِكَ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا عَظِیْمُ یَا شَکُوْرُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْلَمْتُ نَفْسِیْ اِلَیْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً لَا مَلْجَاَ وَلَا مَلْجَاَ مِنْكَ اِلَّا اِلَیْكَ اٰمَنْتُ بِکِتَابِكَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ بِرُسُلِكَ الَّتِیْ اَرْسَلْتَ اَحْفَظْنِیْ عَنْ جَمِیْعِ اٰفَاتِ الدُّنْیَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ ۔ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادٰی فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ط فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذٰلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ ط اَللّٰهُمَّ احْفَظْ صَاحِبَ هٰذَا الدُّعَاءِ مِنْ جَمِیْعِ الْبَلَاءِ وَالْعِلَلِ وَالْمَرَضِ وَالْوَجَعِ وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بَیْنَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِحَقِّ اٰدَمَ صَفِیِّ اللّٰهِ وَبِحَقِّ نُوْحٍ نَبِیِّ اللّٰهِ وَبِحَقِّ اِبْرَاهِیْمَ خَلِیْلِ اللّٰهِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاٰلِهٖ اَجْمَعِیْنَ ۔ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ط

روحانی علاج

مرض برص و جذام کیلئے ایک کامیاب عمل

جس کسی مرض یا جذام ہو اس کو چاہئیے کہ اس دعائے معظم کو سات بار پانی پر پڑھے اور اس پانی کو وہ مریض سات روز تک پیئے یا چالیس روز تک ۔ انشاء اللہ تعالےٰ اس مرض سے شفا ہوگی ۔

دعا یہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْوَاسِعُ الرَّحِیْمُ ۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مَالِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ بِحَقِّ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ط

دفع ام الصبیان

ام الصبیان جسے سوکھا مسان کہتے ہیں اور جو اکثر چھوٹے بچوں کو ہو جاتی ہے ایسے مریض بچے دن بدن سوکھتے جاتے ہیں اور چند روز میں راہی ملک بقا ہو جاتے ہیں ۔ اس مرض میں یہ عمل نہایت مفید ثابت ہوتا ہے ۔

چاہئے کہ آیاتِ ذیل کو مشک و زعفران اور گلاب سے قبل
طلوعِ آفتاب لکھ کے لوہے کے تعویذ میں رکھ کر منہ اس کا موم
خالص سے بند کر دیں اور اس تعویذ کو بچے کے گلے میں ڈال دیں۔
انشاء اللہ تعالےٰ فوراً صحت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور
اس کے علاوہ بچہ تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ آیات
یہ ہیں۔ الم اللہ لا الٰہ الا ھو الحی القیوم ط نزل علیک
الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ
والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ط

اُمّ الصبیان کیلئے ایک مجرب عمل

مندرجہ ذیل آیات مبارکہ کو سفید کاغذ پر زعفران و گلاب سے
لکھ کر تانبے کے تعویذ میں رکھے اور تعویذ کا منہ موم سے بند کر کے
بچے کے گلے میں ڈال دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اُمّ الصبیان کا مرض
جاتا رہے گا۔ اور دوسری بلیات و آفات سے بھی بچہ محفوظ
رہے گا۔ آیات مبارکہ یہ ہیں
اِنّی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا
ھو اٰخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم
فان تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم ویستخلف
ربی قوما غیرکم ولا تضرونہ شیئا ان ربی علی
کل شیء حفیظ ط

آنکھ کی تمام بیماریوں کیلئے مجرب سرمہ

اس روحانی سرمہ کو بارہا تجربہ کیا گیا ہے۔ بے حد کامیاب ا
زود اثر پایا ہے۔ آنکھ کی تمام بیماریوں کو دفع کرتا ہے اور د
کو فوراً کھو دیتا ہے۔ چاہئے کہ سرمہ اصفہانی ۴ تولہ مرجان یا مروا
خورد۔ ۲ تولہ کف دریا۔ ۲ تولہ آب باراں پھاگن۔ اگر یہ پانی
ملے تو انجیر یا انگور یا بید یا خرمہ کا پانی لے کر طلوع آفتاب
پہلے یہ عمل اس طرح کرے کہ پہلے سرمہ وغیرہ کو پانی میں خوب
اور پیسے پھر سکھائے پھر پیسے اور سکھائے اسی طرح چار مرتبہ پیسے
اور سکھائے پانچویں مرتبہ شہد آتش نارسیدہ ملا کے پیسے اور آیا
مبارکہ مندرجہ ذیل کو زعفران سے چینی کے برتن میں لکھے اور
پانی سے دھوئے اور پھر اس پانی میں وہ سرمہ ڈال کر خوب پیسے
سکھائے اپنے پاس احتیاط کے ساتھ رکھ چھوڑے سوتے و
لگایا کرے جن آنکھوں کے علاج سے اطباء عاجز ہو چکے ہوں ا
بھی یہ سرمہ کثیر فائدہ ہوگا۔ آیات یہ ہیں۔
قالوا تاللہ لقد اٰثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین
قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وھو ارحم
الراحمین ط اذھبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی
یات بصیرا واتونی باھلکم اجمعین ط